

چار جزی کا شیڈول

(یکم جولائی سے 31 دسمبر 2025 تک موثر)

مندرجہ ذیل سروس چارجز کے علاوہ اگر دیگر بیان نہیں کیئے گئے ہے تو اضافی (فیڈرل ایکسائزڈیوٹی (FED) اور دیگر تمام قابل اطلاق سرکاری محصولات کسی خاص سروس پر چارج کی جائیں گی۔)

ڈومیسٹک بینکنگ

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
-1	اے۔ ترسیلات زر	بذریعہ اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے پر:
	نئے دستاویزات کا اجراء	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے فلیٹ -/300 روپے۔ بچت اکاؤنٹ کے لیے فلیٹ -/600 روپے۔ کیش لے کر جاری کرنے پر:
(a) پاکستان میں کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی الائیڈ بینکر چیک (ABC) کا اجراء		0.20%، کم از کم -/1,250 روپے (اکاؤنٹ ہولڈرز اور واک ان-کسٹمر)
		نوٹ: تعلیمی اداروں کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے انسٹرومنٹس، جیسا کہ HEC / بورڈ وغیرہ فیس کے 0.50% / واجبات کی رقم -/25 روپے فی انسٹرومنٹ ہوگی (بشمول FED) جو بھی کم ہو۔
	(b) کال ڈپازٹ کی رسید جاری کرنا	بذریعہ اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے پر:
		کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے فلیٹ -/150 روپے۔ بچت اکاؤنٹ کے لیے فلیٹ -/300 روپے۔ کیش لے کر جاری کرنے پر:
		فلیٹ -/1,500 روپے (اکاؤنٹ ہولڈرز اور واک ان-کسٹمر) نوٹ: تعلیمی اداروں کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے انسٹرومنٹس، جیسا کہ HEC / بورڈ وغیرہ فیس کے 0.50% / واجبات کی رقم -/25 روپے فی انسٹرومنٹ ہوگی (بشمول FED) جو بھی کم ہو۔
-2	دستاویزات کی تینخ	بذریعہ اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے پر:
	ڈیمانڈ ڈرافٹ / بے آرڈر / کال ڈپازٹ رسید / الائیڈ بینکر چیک (ABC) کی تینخ کسی بھی برانچ پر یا جاری کردہ برانچ پر واجب الادا	فلیٹ -/425 روپے۔ کیش لے کر جاری کرنے پر:
		فلیٹ -/600 روپے۔ (اکاؤنٹ ہولڈرز اور واک ان-کسٹمر) نوٹ: تعلیمی اداروں کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے انسٹرومنٹس کی منسوخی کے اخراجات، جیسا کہ HEC / بورڈ وغیرہ فیس کے 0.50% / واجبات کی رقم -/25 روپے فی انسٹرومنٹ ہوگی (بشمول FED) جو بھی کم ہو۔
-3	ڈپلیکیٹ دستاویزات کا اجراء	بذریعہ اکاؤنٹ ڈیبٹ کرنے پر:
	ڈپلیکیٹ کال ڈپازٹ کی رسید / الائیڈ بینکر چیک (ABC) کا اجراء	فلیٹ -/425 روپے۔ کیش لے کر جاری کرنے پر:
		فلیٹ -/600 روپے۔ (اکاؤنٹ ہولڈرز اور واک ان-کسٹمر) نوٹ: تعلیمی اداروں کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے ڈپلیکیٹ انسٹرومنٹ کے اخراجات، جیسا کہ HEC / بورڈ وغیرہ فیس کے 0.50% / واجبات کی رقم -/25 روپے فی انسٹرومنٹ ہوگی (بشمول FED) جو بھی کم ہو۔
-4	نوٹ: کیش پیمنٹ یا کسی اور انتظام کے تحت چارجز کی وصولی معاہدے کے ساتھ شرط ہوگی۔	
	NBP / SBP آلات اور RTGS کا اجراء	
	(a) صارفین کی درخواست پر NBP / SBP چیک کا اجراء۔	-/500 روپے فی چیک
	(b) -/1,000,000 اور اس سے زیادہ کے فنڈ کی منتقلی بذریعہ رینل ٹائم گراس سیٹلمنٹ (RTGS) سسٹم۔	
	103 MT سہولت	
	فینڈر آؤٹ فلو	ایام
		پیر
		صبح 9.00 سے دوپہر 1.00 تک
		دوپہر 1.00 سے سہ پہر 3.00 تک
		جمعہ
		سہ پہر 3.00 سے شام 3.45 تک
	فینڈر ان فلو چارجز	
		Nil
	نوٹ: اسٹیٹ بینک کو قابل ادائیگی RTGS چارجز قابل بحث نہیں ہیں (اس وقت اسٹیٹ بینک کی طرف سے معطل ہیں)۔	
	اصول کے مطابق FED / ST صرف RTGS چارجز کے ABL کے شیڈول پر لاگو ہے۔	

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
-5	انٹربانک آن لائن ٹرانزیکشنز	(c) 100,000/- اور اس سے زیادہ کے فنڈ کی منتقلی بذریعہ رینٹل ٹائم گراس سیٹلمنٹ (RTGS) سسٹم 102MT سہولت ایک 102MT میں زیادہ سے زیادہ 10 ادائیگی کی ہدایات فنڈز آؤٹ فلو ایام پیر صبح 9.00 سے شام 3.45 تک جمعه فنڈز ان فلو چارجز Nil نوٹ: اسٹیٹ بینک کو قابل ادائیگی RTGS چارجز قابل بحث نہیں ہیں (اس وقت اسٹیٹ بینک کی طرف سے معطل ہیں)۔ اصول کے مطابق FED/ST صرف RTGS چارجز کے ABL کے شیئر پر لاگو ہے۔
	(a) فنڈز کا لانا	کرنٹ اور آئی بی جی کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: مفت سیونگ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: (اے) اندرون شہر 250,000 روپے تک 20 روپے (اکاؤنٹ ہولڈر سے وصول کیے جائیں گے) 250,000 روپے سے زائد - مفت (ب) انٹرنی 500,000 روپے تک - 465/- روپے 500,000 روپے سے زائد - 0.1% زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے
	(i) بذریعہ چیک	کرنٹ اور آئی بی جی کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: مفت سیونگ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: (اے) اندرون شہر 50 روپے (ب) انٹرنی 500,000 روپے تک - 465/- روپے 500,000 روپے سے زائد - 0.1% زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے
	(ii) اکاؤنٹ پر بغیر چیک کے بائیو میٹرک کیش ٹرانزیکشنز۔ (نی پی ایم CNIC ٹرانزیکشن)	کرنٹ اور آئی بی جی کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: مفت سیونگ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: (اے) اندرون شہر 50 روپے (ب) انٹرنی 500,000 روپے تک - 465/- روپے 500,000 روپے سے زائد - 0.1% زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے
	(b) کیش ڈپازٹ	کرنٹ اور آئی بی جی کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: مفت سیونگ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: (اے) اندرون شہر مفت (ب) انٹرنی 500,000 روپے تک - 600/- روپے 500,000 روپے سے زائد - 0.12% زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے نوٹ: تعلیمی ادارے کی فیس جمع کرنے والے اکاؤنٹ میں طالب علم کی جانب سے جمع کروائی جانے والی براہ راست رقم پر کوئی سروس فیس چارجز وصول نہیں کئے جائیں گے۔
	(c) اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر (چیک، ڈیبٹ اتھارٹی یا بائیو میٹرک کے ذریعے)	کرنٹ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: مفت سیونگ کیٹیگریز اکاؤنٹس کے لیے: (اے) اندرون شہر مفت (ب) انٹرنی 0.1% کم از کم 600/- روپے، زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے نوٹ: تعلیمی ادارے کی فیس جمع کرنے والے اکاؤنٹ میں طالب علم کی جانب سے جمع کروائی جانے والی براہ راست رقم پر کوئی سروس فیس چارجز وصول نہیں کئے جائیں گے۔
	(d) چیک/کلیئرنگ/تفلیص کے لئے انسرومنٹ ڈپازٹ بذریعہ ری موٹ برانچ سے کیش	(اے) اندرون شہر مفت (ب) انٹرنی کرنٹ اکاؤنٹ سے 0.1% کم از کم 300/- روپے، زیادہ سے زیادہ - 1,000/- روپے سیونگ اکاؤنٹ سے 0.1% کم از کم 600/- روپے، زیادہ سے زیادہ - 3,000/- روپے نوٹ: ABL کے ڈیپوٹنڈ وائٹس کی وصولی پر، جو کہ الائیڈ بینک کے شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں ہوں پر کوئی چارجز نہیں ہیں۔
	(e) برانچ کاؤنٹر سے انٹربینک فنڈ ٹرانسفر (IBFT) (زیادہ سے زیادہ سنگل ٹرانسفر 500,000 روپے)	کرنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کے لیے فلیٹ - 300/- روپے سیونگ اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کے لیے فلیٹ - 600/- روپے الائیڈ برنس اکاؤنٹ کے لیے مفت
	(f) برانچ کاؤنٹر کے ذریعے کسی کو بھی ادائیگی کریں۔ (الائیڈ اکاؤنٹ سے کسی بھی شخص کے CNIC میں فنڈ کی منتقلی) کمیشن	250/- روپے

سیریل نمبر	تفصیل	الائڈ بینک چارجز کی شرح
1-	بی-ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ (ILC) ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ (ILC) ILC اوپننگ کمیشن - سالانہ بزنس (a) 50 ملین روپے تک 50 ملین روپے سے 75 ملین روپے تک متجاوز 75 ملین روپے سے 100 ملین روپے تک متجاوز 100 ملین سے زائد نوٹ: (i) مصاحبتی ریٹس چیف/CRBG/CIBG اور RMG کے تصدیق شدہ ہیں۔ (ii) سالانہ حجم کا تعین اور تصدیق چیف CIBG/CRBG سے ہوگی۔ (iii) صارف کی جانب سے کمیشن لیٹر بزنس کمیشن میں شارٹ فال کے باعث کمیشن ہیمنٹ میں فرق کا حصول آن ریکارڈ ہوگا۔ ہر صارف کے کمیشن لیٹر کی کاپی مانیٹرنگ کے لیے ٹریڈ فیکٹری کو دی جائے گی اور کمیشن میں کسی بھی قسم کے فرق کی بحالی سال کے آخر میں ہوگی۔ اس سلسلے میں کوئی چھوٹ بذریعہ C E O متعلقہ چیف CIBG/CRBG اور RMG کی جانب سے مجوزہ ہوگی۔	0.40% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ 0.35% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ 0.30% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ فی سہ ماہی قابل مصالحت کم از کم روپے -/2,000 فی ایل سی بمع قابل نفاذ ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
2-	تریمی چارجز (a) شپمنٹ کی مدت/رقم میں توسیع کے بغیر (b) رقم میں اضافہ اور/یا شپمنٹ کی مدت میں توسیع شامل ہے۔	-/1,500 روپے (فلیٹ) فی معاملہ بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔ -/1,500 روپے (فلیٹ) فی معاملہ بمع کمیشن جیسا کہ سیریل نمبر B(1) میں اوپر درج ہے بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
3-	ازسر نو تصدیق (ILC) کی میعاد ختم ہونے کے بعد مدت میں توسیع	LC کی میعاد ختم ہونے کی آخری تاریخ سے لے کر نئی LC کھولنے کی صورت میں لاگو شرحوں پر LC کی نئی میعاد ختم ہونے تک کمیشن وصول کیا جائے گا جیسا کہ اوپر سیریل نمبر B(1) میں اوپر درج ہے۔ توثیق نو کی کمیشن درخواست گزار کی جانب سے زائد المیاد LC کی دستاویزات گرفت و شنید/کھولنے والے بینک کاؤنٹر کو جمع کروانے کی منظوری پوری ویلڈیشن کمیشن وصول کیا جائے گا۔ بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
4-	تفصیلی چارجز	-/1,000 روپے (فلیٹ) فی معاملہ بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
5-	ٹرانسفر کمیشن	تازہ دہلی کی کھولنے کی صورت میں ٹرانسفر کمیشن سیریل نمبر B(1) میں اوپر درج شرح کے مطابق ہوگی۔ بمع سیریل نمبر B(3) کے تحت LC چارجز اگر زائد المیاد LC کی تجدید بمع اصلی منتقلی نئے شخص کو ہو رہی ہے۔ بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
6-	آئی ایل سی کے تحت بلز - اوپننگ اینڈ (a) سائٹ ILC کے تحت بلز - دستاویزات کے لیے ادائیگی (پی اے ڈی کیش مارجن کی نیٹ اماؤنٹ) (i) کمیشن - اگر بل مصاحبتی بینک کو ادائیگی کی تاریخ سے 3 دن کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ (ii) کمیشن - اگر بل مصاحبتی بینک کو ادائیگی کی تاریخ سے 4 سے 7 دن کے اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ (iii) پی اے ڈی کی رقم پر مارک اپ وصول کیا جائے گا (کیش مارجن کا نیٹ ILC کے افتتاح سے ہو رہی ہے یا دستاویزات گرفت و شنید سے پہلے ہوگی)	کوئی کمیشن نہیں۔ قیمت خریداری پر 0.25% منظور شدہ حد کی صورت میں: منظور شدہ شرح پر مارک اپ پی اے ڈی لوجسٹک ڈیپٹ کی تاریخ سے ختم ہونے کی تاریخ تک نافذگا، اگر کوئی کیش مارجن ہوا تو اس کو لگانے کے بعد۔ منظور شدہ حد کی عدم موجودگی میں: مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 5% سالانہ کی شرح سے چارج ہوگا۔ پی اے ڈی لوجسٹک ڈیپٹ کی تاریخ سے ختم ہونے کی تاریخ تک نافذگا، اگر کوئی کیش مارجن ہوا تو اس کو لگانے کے بعد۔
	(b) پرانے واجبات (PDO) - اگر بل 7 دن کے دوران ایڈجسٹ نہ ہو۔ (i) PDO کوٹراسفر پر کمیشن (ii) PDO کوٹراسفر کے بعد مارک اپ (c) Usance ILC کے تحت بلز - قابل قبول	قیمت خریداری پر 0.35% بل کی مقررہ تاریخ سے ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ تک مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20%، جو بھی زیادہ ہو، سالانہ کی شرح سے چارج ہوگا۔

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
7-	(i) کمیشن - اگر بل مقررہ تاریخ پر ادا کیا گیا ہے۔	(a) فی بل کمیشن فلیٹ 1,000 روپے۔ (اگر LC کی ميعاد کے اندر ہو) (b) ماہانہ 0.10% کی شرح سے کمیشن یا فی حصہ کم از کم 1,000 روپے فی بل LC کی ميعاد ختم ہونے کی تاریخ سے (اگر LC کی ميعاد ختم ہونے کے بعد بل موصول ہوا) بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	(ii) مارک اپ - اگر بل مقررہ تاریخ پر ادا کیا گیا ہے۔	کوئی مارک اپ نہیں۔
	(d) اگر بل مقررہ تاریخ پر ادا نہیں کیا گیا ہے۔	
	(i) کمیشن - اگر بل مقررہ تاریخ پر ادا نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ فنانس ایجنٹ ڈس آنرڈ بل (FADB)	کمیشن کی شرح 0.40% کم از کم فلیٹ 1,000 روپے بمع زائد کمیشن بشرح 0.10% فی ماہ LC کی ميعاد ختم ہونے کی تاریخ سے وصول کی جائے گی۔ بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	(ii) مارک اپ - اگر بل مقررہ تاریخ پر ادا نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ ایل سی کی ادائیگی بذریعہ فنانس ایجنٹ ڈس آنرڈ بل (ایف اے ڈی بی)	مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو، بل کی مقرر کردہ تاریخ سے لے کر ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ تک
	آئی ایل سی کے تحت بلز بمصالحی اینڈ (End)	
	اے) سائٹ آئی ایل سی کے تحت بلز	
8-	(i) کمیشن	0.55% کم از کم 800 روپے (ایل سی کی رقم کے قطع نظر) بمع اصل چارجز اور دوسرے بینک کو لیکننگ چارجز اگر کوئی ہوں تو بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	(ii) مارک اپ	اے) مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 6% یا 16% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو۔ بی) اگر بل خریداری/ڈسکاؤنٹنگ کی تاریخ سے 15 دن بعد ادا کیا گیا ہے تو مارک اپ KIBOR 3 ماہ بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو، مکمل دورانہ کے حساب سے چارج ہوگا
	(iii) پابند یا محدود LC کے لئے کو لیکننگ چارجز (جہاں مصالحت یا گفت و شنید دوسرے بینک تک محدود ہوتی ہے اور ہمیں آگے بڑھانے کے لئے پیش کی جاتی ہے۔	1,000 روپے فلیٹ بمع اصل چارجز اور دوسرے بینک کو لیکننگ چارجز اگر کوئی ہوں تو بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	بی) ILC بلز Usance کے تحت	
	(i) کمیشن	کمیشن 0.40% کم از کم 1,000 روپے بمع بینک کی خط و کتابت اصل اخراجات کے مطابق بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	(ii) ڈسکاؤنٹ/گفت و شنید پر مارک اپ کی بحالی	منظور شدہ حد کی صورت میں: مارک اپ کی منظور شدہ حد لاگو ہوگی منظور شدہ حد نہ ہونے کی صورت میں: مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 6% یا 16% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو۔
	(iii) مقررہ تاریخ کے بعد بل ادائیگی کی صورت میں	مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو۔ بل کی مقرر کردہ تاریخ سے لے کر ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ تک
9-	پرچہ/بلز پر رعایت - ڈاکیومنٹری بلز بغیر آئی ایل سی	
	اے) ڈاکیومنٹری بلز کی خریداری ماسوائے ان کے جو لیٹر آف کریڈٹس کے مقابل ہیں۔	اے) کمیشن 0.40% کم از کم 1,000 روپے بمع دیگر کو لیکننگ بینکس کے اصل چارجز اگر کوئی ہے بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔ بی) مارک اپ کی وصولی منظوری کے قواعد کے مطابق ہوگی سی) اگر بل مقررہ تاریخ کے بعد ادا ہو، مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو، بل کی مقرر کردہ تاریخ سے لے کر ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ تک
	بی) کلین بلز (چیکس، بینک ڈرافٹس وغیرہ)	اے) کمیشن 0.40% کم از کم 1,000 روپے بمع دیگر کو لیکننگ بینکس کے اصل چارجز اگر کوئی ہے بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔ بی) مارک اپ کی وصولی منظوری کے قواعد کے مطابق ہوگی سی) اگر بل مقررہ تاریخ کے بعد ادا ہو، مارک اپ 3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو۔
	سی) سٹوریج چارجز وغیرہ	اے) اگر برائے سے وصولی کے 3 دن کے اندر کیئر کرایا گیا تو کوئی چارج نہ ہوں گے بی) فی پیک 2 روپے روزانہ کم از کم 100 روپے
	کو لیکننگ	
	اے) ڈاکیومنٹری	کمیشن 0.40% کم از کم 1,000 روپے بمع دیگر کو لیکننگ بینکس کے اصل چارجز اگر کوئی ہے بمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیونٹیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن I کے مطابق۔
	بی) ایکسپریس کو لیکننگ بذریعہ آئی بی آر	اے) اندرون شہر: مفت بی) انٹرنی: 0.05% کم از کم 250 روپے، زیادہ سے زیادہ 2,000 روپے

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
10-	آئی ایل سی کے تحت دیگر چارجز	
	(اے) آئی ایل سی کے ایڈوائزنگ چارجز یا ترمیم	1,500 روپے فلیٹ جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
	(بی) آئی ایل سی کے کنفرمیشن چارجز	0.25% فی ماہ کم از کم 1,500 روپے یا فنانشل انسٹیٹیوشن ڈویژن کے ساتھ طے شدہ قیمت
	(سی) آئی ایل سی کے تحت مختلف دستاویزات کی ہینڈلنگ	3,000 روپے فلیٹ جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
	(ڈی) آئی ایل سی غیر ادا شدہ بلز کی واپسی	500 روپے فلیٹ جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔ جمع بینک کے اصل خط و کتابت کے اخراجات
	(ای) محدود آئی ایل سی کے تحت اگر دستاویزات مصالحت/کوئیکشن کے لئے دوسرے بینکوں کو بھیجے گئے ہیں	1,100 روپے جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔ جمع بینک کے اصل خط و کتابت کے اخراجات
	(ایف) ڈاکیومنٹری کے لئے ریٹیننگ چارجز اور گیلن کوئیکشن (کیلن کوئیکشن بشمول چیکس، بینک ڈرافٹ وغیرہ)	500 روپے فلیٹ غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ پر 10 امریکی ڈالر فلیٹ یا اس کے برابر غیر ملکی کرنسی جمع دوسرے اصل بینک کوئیکٹنگ چارجز اگر کوئی ہوں تو جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
	(سی) گارنٹی	
	(1) گارنٹیز کا اجراء (عمومی)	
	(اے) چیکنگ لمیٹڈ گارنٹیز کا اجراء/ایئر لائنز/لدائی کے بلز کی بجائے ٹرانسپورٹ کمپنیز/ایئر وے مل/ٹرک کی رسیدیں/ریلوے کی رسیدیں	-/2,000 روپے فلیٹ جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
	(بی) کسٹمر کے کوئیکٹر کو گارنٹی کا اجراء	
	اگر سو فیصد کیش مارجن کے مقابل جاری نہ کیا گیا ہو/کرنٹ اکاؤنٹ پر قانونی دعویٰ	0.60% فی سہ ماہی یا حصہ جز کم از کم 1,500 روپے جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
	(سی) دیگر گارنٹیز بشمول بڈ بانڈ، پرفارمنس بانڈز، ایڈوائس جیمینٹ گارنٹیز، پاکستان میں موجود اکاؤنٹ ہولڈر کی درخواست پر گارنٹیز کا اجراء اگر سو فیصد کیش مارجن کے مقابل جاری نہ کیا گیا ہو/کرنٹ اکاؤنٹ پر قانونی دعویٰ	سالا نہ کاروبار (اے) 15 ملین روپے تک 0.40% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ (بی) 15 ملین سے زائد 30 ملین تک 0.30% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ (سی) 30 ملین سے زائد 50 ملین تک 0.25% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ (ڈی) 50 ملین سے زائد پُرگفت و شنید ہو سکتی ہے فی گارنٹی کم از کم -1,500 روپے فی سال فی گارنٹی یا -500 روپے فی سہ ماہی جہاں بھی گارنٹی کی معقولیت ایک سال سے کم ہو جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق۔
نوٹ:		
(اے) کرنٹ اکاؤنٹ پر لین 100% /کیش مارجن پر کے اجراء کی صورت میں کوئی کمیشن نہیں لیا جائے گا، سوائے قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے۔		
(بی) (i) اجراء کی تاریخ سے لے کر تاریخ تک تمام گارنٹیز سے کمیشن لیا جائے گا بشمول کلیم کے مستند ہونے کے دوران میں یا جب تک بینک اپنی ذمہ داریوں سے آزاد نہیں ہوتا جو بھی زیادہ ہو۔ (ii) 2,000 روپے ماہانہ یا اس کا کچھ حصہ گارنٹی کی اصل رسید تک ایل سی کی تاریخ تک لین کے بعد بھی چارج کیا جائے گا اور شپنگ کے کاغذات کلاز (a) (1) C کے تحت دیئے جائیں گے۔		
(سی) مصالحتی ریش چیف سی آئی بی جی/سی آر بی جی اور آرا ایم جی کی منظوری سے ہوں گے۔		
(ڈی) سالانہ اہم کا تعین اور تصدیق چیف سی آر بی جی/سی آئی بی جی کی اجازت سے ہوگی۔		
(ای) اگر برنس کمیشن کی کریڈٹ ایروول میں کاغذی کارروائی نہیں کی گئی تو صارف کی جانب سے علیحدہ کمیشن لیٹر یعنی برنس میں کمی کے باعث کمیشن میں فرق کی ادائیگی لیا جائیگا اور ریکارڈ پر رکھا جائے گا۔ برنس و اہم میں شارٹ فال کی وجہ سے کمیشن میں کمی بھی قسم کے فرق کی وصولی سال کے آخر میں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی چھوٹ سی ای او کی جانب سے دی جائے گی۔ جو کہ متعلقہ چیف سی آر بی جی/سی آئی بی جی اور آرا ایم جی کی جانب سے مجوزہ ہوں۔		
(ایف) گارنٹی پر تمام متفرق اخراجات اصل لاگو ہوں گے۔ بے شک رہیں یا مارجن رکھا گیا ہو۔		
(2) گارنٹیز میں ترمیم (عمومی)		
(اے) رقم میں اضافہ کے بغیر ادلت میں توسیع	گارنٹیز کو ڈی نامینٹ کرنے پر -/1,200 پاکستانی روپے جمع قابل اطلاق ڈسپنچ/کیوینکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن ا کے مطابق	

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
	(بی) رقم میں اضافہ اور/یا مدت میں توسیع	اجراء کی کمیشن جیسا کہ C(1) کے مطابق گارنٹی کی نیچر / قسم جمع قابل اطلاق ڈسپنچ / کمیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق
	(3) گارنٹی کا اجراء (یکے بعد دیگرے)	
	(اے) ایک ٹویک گارنٹی کا اجراء بشمول بڈیونڈ، بڈر فائنس، فائنس بینک کی کارڈ گارنٹی کے مقابل ایڈوائس جیمینٹ کا اجراء	دوسری گارنٹیوں کے تحت جیسا کہ اوپر سیریل نمبر (c) (1) C میں ذکر کیا گیا ہے۔ کم از کم 100 امریکی ڈالر (مندرجہ بالا کمیشن کلائنٹ اور فنانشل انسٹیٹیوشن ڈویژن کے خط و کتابت کے انتظامات کے مابین قابل گفت وشنید ہے۔) جمع قابل اطلاق ڈسپنچ / کمیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق
	(بی) ایک ٹویک گارنٹی میں ترامیم	
	(i) رقم میں اضافہ کے بغیر / مدت میں توسیع	فلٹ 60 امریکی ڈالر جمع قابل اطلاق ڈسپنچ / کمیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق
	(ii) رقم میں اضافہ اور/یا مدت میں توسیع	سیریل نمبر C (3) (a) میں بیان کردہ گارنٹیوں کے مطابق کمیشن جمع قابل اطلاق ڈسپنچ / کمیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق
	4۔ کلیم لو جمنٹ	
	(اے) کمیشن ہینڈلنگ	2,500 روپے فلٹ جمع قابل اطلاق ڈسپنچ / کمیونیکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق جمع ہینڈلنگ ٹیرف کے سیکشن 1 کے مطابق
	(بی) منافع۔ گارنٹی کے مناجات کے مقابل استحصالی / جبری ذمہ داری کی صورت میں	20% سالانہ مارک اپ فورسڈ لائیوٹی کے قیام سے لے کر اس کے مکمل ایڈجسٹمنٹ تک چارج کیا جائے گا۔
	ڈی (لاکرز)	
(1) سیف ڈیپازٹ لاکرز۔ سالانہ فیس لاکر کے اجراء پرائیڈ وائس میں کیلنڈر کو آرڈر میں حاصل کر لی جائے گی		
وضاحت	سالانہ کرایہ یا سالانہ کرایہ کے عوض سکیورٹی ڈپازٹ	
(اے) 0.40 مکعب فٹ تک۔ سال	کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 5,000 روپے سالانہ 60,000 روپے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 6,000 روپے سالانہ 75,000 روپے	
(بی) 0.41 سے 0.80 اور 0.81 سے 1.35 مکعب فٹ۔ میڈیم	کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 7,000 روپے سالانہ 75,000 روپے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 8,000 روپے سالانہ 105,000 روپے	
(سی) 1.36 سے 1.75 اور 1.76 سے 2 مکعب فٹ۔ لارج	کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 9,000 روپے سالانہ 110,000 روپے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 12,000 روپے سالانہ 135,000 روپے	
ڈی (1) 2.01 سے 2.50 اور 2.51 سے 3.00 مکعب فٹ۔ ایکسٹرا لارج	کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 13,000 روپے سالانہ 180,000 روپے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے 16,000 روپے سالانہ 220,000 روپے	
(2) کی ڈیپازٹ:	اس سال 3,500 روپے فلٹ میڈیم 4,000 روپے فلٹ لارج / ایکسٹرا لارج 5,500 روپے فلٹ	
3۔ لاکر بریک اوپننگ چارجز	6,000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو	
4۔ لاکر کے کرایہ کی دیر سے ادائیگی پر چارجز	واجب الادا تاریخ سے رعایتی دورانیہ 30 دن کے بعد 10% سالانہ کرایہ لاگو ہوگا۔	
(اگر سالانہ کرایہ مقررہ تاریخ پر ادا نہیں کیا گیا۔)		
(DL) ڈیجیٹل لاکرز		
(1) ڈیجیٹل لاکر۔ کرایہ (سالانہ) اور سکیورٹی ڈپازٹ	کرایہ (سالانہ) یا سکیورٹی ڈپازٹ	
سال	30,000 روپے 400,000 روپے	
میڈیم	35,000 روپے 500,000 روپے	
لارج / ایکسٹرا لارج	40,000 روپے 600,000 روپے	
(2) ڈیجیٹل لاکر کی ڈپازٹ	اس سال 10,000 روپے میڈیم 10,000 روپے لارج / ایکسٹرا لارج 10,000 روپے	
(لاکری کی مدت کے اختتام پر قابل واپسی)		
(3) ڈیجیٹل لاکر۔ بریک اوپننگ چارجز	اس سال 10,000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو میڈیم 10,000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو لارج / ایکسٹرا لارج 10,000 روپے یا اصل جو بھی زیادہ ہو	
(4) ڈیجیٹل لاکر۔ لیٹ جیمینٹ چارجز	واجب الادا تاریخ سے رعایتی دورانیہ 30 دن کے بعد 10% سالانہ کرایہ لاگو ہوگا۔	

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح																	
	نوٹ: (a) سکیورٹی ڈپازٹ کلیدی ڈپازٹ پر مشتمل ہے، جو لاکر کی چھوڑتے وقت قابل واپسی ہے۔ (b) کرنٹ اکاؤنٹ میں 1.00 ملین اوسط سالانہ بیلنس برقرار رکھنے والے صارف کے لیے ایک لاکر (روایتی) مفت ہے۔ (c) اوسط سالانہ بیلنس برقرار رکھنے والے صارف کے لیے ایک لاکر (ڈیجیٹل) مفت ہے: کرنٹ اکاؤنٹ میں: 5 ملین، بچت اکاؤنٹ میں: 10 ملین (d) الائیڈ خانم اکاؤنٹ ہولڈرز روایتی لاکر کرایہ پر 50% رعایت حاصل کر سکتے ہیں (صرف پہلے سال) دستیابی سے مشروط																		
-1	(ای) فنانسز، ایڈوائسز، سرمایہ کاری بینکنگ، لیزنگ																		
	کارپوریٹ اور انویسٹمنٹ بینکنگ																		
	درج ذیل چارجز کی وصولی سود، مارک اپ اور سرمایہ کاری پر بیژن کے علاوہ ہوگی																		
	اے) پراجیکٹ ایگزیکٹو، انتظام و انصرام، ایڈوائسز پر اسسٹنگ	ہر معاملہ کی بنیاد پر کسٹمر سے گفت و شنید کی جائے گی/ یا جیسا کہ منظوری دی گئی																	
	اپ فرنٹ فیس وغیرہ																		
	بی) قانونی دستاویزاتی فیس	ہر معاملہ کی بنیاد پر کسٹمر سے گفت و شنید کی جائے گی/ یا جیسا کہ منظوری دی گئی																	
	سی) کمٹینٹ فیس	ہر معاملہ کی بنیاد پر کسٹمر سے گفت و شنید کی جائے گی/ یا جیسا کہ منظوری دی گئی																	
	ڈی) پراجیکٹ مانیٹرنگ فیس	ہر معاملہ کی بنیاد پر کسٹمر سے گفت و شنید کی جائے گی/ یا جیسا کہ منظوری دی گئی																	
	ای) کنسورشیم مینجمنٹ فیس	ہر معاملہ کی بنیاد پر کسٹمر سے گفت و شنید کی جائے گی/ یا جیسا کہ منظوری دی گئی																	
	ایف) مستعار کپنی کی املاک پر چارجز کے لئے بنام بینک/ ڈی ایف آئی این اوسی کا اجراء	10,000 روپے فلیٹ یا چیف C I B G کی منظوری سے جو کسٹمر سے طے کیا گیا																	
-2	کمرشل اور ریتیل بینکنگ																		
	اے) نئے تجریدی، اضافی (آنہنسمینٹ)، ریگولر پروپوزل (کے لئے فنڈ اور غیر فنڈ کی بنیاد پر) سی اے پر پروسیسنگ چارجز	<table> <tr> <th>سیریل نمبر</th><th>رقم کی حد (روپوں میں)</th><th>پروسیسنگ چارجز</th></tr> <tr> <td>i-</td><td>0 سے 5 ملین تک</td><td>0.1% یا کم از کم 2,000 روپے</td></tr> <tr> <td>ii-</td><td>5 ملین سے 10 ملین تک</td><td>0.1% یا کم از کم 5,000 روپے</td></tr> <tr> <td>iii-</td><td>10 ملین سے 25 ملین تک</td><td>0.075% یا کم از کم 10,000 روپے</td></tr> <tr> <td>iv-</td><td>25 ملین سے 50 ملین تک</td><td>0.05% یا کم از کم 20,000 روپے</td></tr> <tr> <td>v-</td><td>50 ملین اور زائد</td><td>0.035% یا کم از کم 25,000 روپے</td></tr> </table>	سیریل نمبر	رقم کی حد (روپوں میں)	پروسیسنگ چارجز	i-	0 سے 5 ملین تک	0.1% یا کم از کم 2,000 روپے	ii-	5 ملین سے 10 ملین تک	0.1% یا کم از کم 5,000 روپے	iii-	10 ملین سے 25 ملین تک	0.075% یا کم از کم 10,000 روپے	iv-	25 ملین سے 50 ملین تک	0.05% یا کم از کم 20,000 روپے	v-	50 ملین اور زائد
سیریل نمبر	رقم کی حد (روپوں میں)	پروسیسنگ چارجز																	
i-	0 سے 5 ملین تک	0.1% یا کم از کم 2,000 روپے																	
ii-	5 ملین سے 10 ملین تک	0.1% یا کم از کم 5,000 روپے																	
iii-	10 ملین سے 25 ملین تک	0.075% یا کم از کم 10,000 روپے																	
iv-	25 ملین سے 50 ملین تک	0.05% یا کم از کم 20,000 روپے																	
v-	50 ملین اور زائد	0.035% یا کم از کم 25,000 روپے																	
	اے) پروسیسنگ چارجز ناقابل واپسی ہیں اور براہ راست لئے جائیں گے																		
	بی) چارجز درخواست شدہ رقم کے تناسب سے ہیں																		
	سی) پراڈکٹ پروگرامز پر قابل نفاذ نہیں ہیں																		
بی) ایک وقتی ٹرانزیکشن، ترمیم، عارضی آنہنسمینٹ اور ای او ایلز (EOLS)	<table> <tr> <th>سیریل نمبر</th><th>رقم کی حد (روپوں میں)</th><th>پروسیسنگ چارجز</th></tr> <tr> <td>i-</td><td>0 سے 5 ملین تک</td><td>1,000 روپے</td></tr> <tr> <td>ii-</td><td>5 ملین سے 10 ملین تک</td><td>2,000 روپے</td></tr> <tr> <td>iii-</td><td>10 ملین سے 25 ملین تک</td><td>3,000 روپے</td></tr> <tr> <td>iv-</td><td>25 ملین سے 50 ملین تک</td><td>4,000 روپے</td></tr> <tr> <td>v-</td><td>50 ملین اور زائد</td><td>5,000 روپے</td></tr> </table>	سیریل نمبر	رقم کی حد (روپوں میں)	پروسیسنگ چارجز	i-	0 سے 5 ملین تک	1,000 روپے	ii-	5 ملین سے 10 ملین تک	2,000 روپے	iii-	10 ملین سے 25 ملین تک	3,000 روپے	iv-	25 ملین سے 50 ملین تک	4,000 روپے	v-	50 ملین اور زائد	5,000 روپے
سیریل نمبر	رقم کی حد (روپوں میں)	پروسیسنگ چارجز																	
i-	0 سے 5 ملین تک	1,000 روپے																	
ii-	5 ملین سے 10 ملین تک	2,000 روپے																	
iii-	10 ملین سے 25 ملین تک	3,000 روپے																	
iv-	25 ملین سے 50 ملین تک	4,000 روپے																	
v-	50 ملین اور زائد	5,000 روپے																	
سی) مستعار کپنی کی املاک پر چارجز کے لئے بنام بینک/ ڈی ایف آئی این اوسی کا اجراء	10,000 روپے (فلیٹ) یا چیف سی آر بی جی کی منظوری سے جو 100 ملین سے بڑھ جائے اس کے لئے جیسا کہ کسٹمر سے طے پایا																		

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
3-	زراعت فنانس (اے) نئے قرضے، اضافی (انہیسیٹ)، ریگولر پروپوزل کے لئے فنڈ کی بنیاد پر (زراعت کے سی اے پر پروسیجرنگ چارجز)	(اے) تمام فارم قرضوں کے لئے سیریل نمبر رقم کی حد (روپوں میں) پروسیجرنگ چارجز i- 0 سے 0.5 ملین تک 1,000 روپے ii- 0.500 ملین سے 0.999 ملین تک 2,000 روپے iii- 1 ملین اور اس سے زائد 3,000 روپے (بی) تمام غیر فارم قرضوں کے لئے سیریل نمبر رقم کی حد (روپوں میں) پروسیجرنگ چارجز i- 0 سے 5 ملین تک 0.1% یا کم از کم 2,000 روپے ii- 5 ملین سے 10 ملین تک 0.1% یا کم از کم 5,000 روپے iii- 10 ملین سے 25 ملین تک 0.075% یا کم از کم 10,000 روپے iv- 25 ملین سے 50 ملین تک 0.05% یا کم از کم 20,000 روپے v- 50 ملین اور زائد 0.035% یا کم از کم 25,000 روپے
		(اے) پروسیجرنگ چارجز ناقابل واپسی ہیں (بی) چارجز درخواست شدہ رقم کے تناسب سے ہیں
		سیریل نمبر رقم کی حد (روپوں میں) پروسیجرنگ چارجز i- 0 سے 0.5 ملین تک 1,000 روپے ii- 0.500 ملین سے 0.999 ملین تک 2,000 روپے iii- 1 ملین اور اس سے زائد 3,000 روپے
4-	پروگرام لینڈنگ (اے) تمام مصدقہ منظور شدہ لینڈنگ پراڈکٹ پروگرامز (بی) ایک وقتی ٹرانزیکشن، ترمیم، عارضی انہیسیٹ اور ای او ایلیز (مستعار کی درخواست پر)	(i) ہر سرگرمی کے لئے 1,000 روپے (فلیٹ) - سہولت کا حجم 1 ملین (ناقابل واپسی، براہ راست ادائیگی) (ii) ہر سرگرمی کے لئے 2,000 روپے (فلیٹ) - سہولت کا حجم 1 ملین (ناقابل واپسی، براہ راست ادائیگی)
		سہولت کے چارجز منظور شدہ رقم کے 1% سالانہ ہوں گے جو کہ کلائنٹ سے سہولت ختم ہونے پر ادائیگی کے وقت براہ راست لئے جائیں گے (ہر لینڈنگ پروگرام کے لئے دوسری سہولیات کے چارجز متعلقہ اتھارٹی منظور کرے گی)
		(i) 1,000 روپے (فلیٹ) ہر سرگرمی کے لئے - سہولت کا حجم 1 ملین تک (ناقابل واپسی - براہ راست ادائیگی) (ii) 2,500 روپے (فلیٹ) ہر سرگرمی کے لئے - سہولت کا حجم 1 ملین تک (ناقابل واپسی - براہ راست ادائیگی) 1,200 روپے فلیٹ
5-	اے بی ایل فاسٹ فنانس (اے) درخواست کی پروسیجرنگ، تجدید، عبوری سہولت (بشمول ایک وقتی ٹرانزیکشن) ترمیم (بی) دیگر بینکوں کی جانب سے گارنٹی کے اجراء پر چارجز	(i) 1,000 روپے (فلیٹ) ہر سرگرمی کے لئے - سہولت کا حجم 1 ملین تک (ناقابل واپسی - براہ راست ادائیگی) (ii) 2,500 روپے (فلیٹ) ہر سرگرمی کے لئے - سہولت کا حجم 1 ملین تک (ناقابل واپسی - براہ راست ادائیگی) 1,200 روپے فلیٹ
		الائیڈ پرسنل فنانس (اے) پروسیجرنگ فیس (ناقابل واپسی) (بی) تاخیر سے ادائیگی کی فیس (سی) آٹو ڈیبٹ کیلئے ناکافی فنڈز کے باعث چیک ریٹرن چارجز (ڈی) ادائیگی سے پہلے جرمانہ (ای) لمٹ (محدود) انہیسیٹ فیس
		3,000 روپے یا درخواست کردہ رقم کا 1% جو بھی زیادہ ہو ڈیٹا چیک، تصدیق اور سٹامپ ڈیوٹی سے متعلق چارجز شامل ہوں گے 1,500 روپے ہر بار 1,200 روپے ہر بار کل واجب الادا رقم کا 5% صرف کارپوریٹ شعبے کے لئے ادائیگی سے پہلے کوئی جرمانہ نہیں ہے 2,200 روپے یا درخواست کردہ رقم کا 1% جو بھی زیادہ ہو
6-	الائیڈ کار فنانس (اے) پروسیجرنگ فیس (بی) تاخیر سے ادائیگی کی فیس (سی) چیک کی واپسی کے چارجز (ڈی) گاڑی کی دوبارہ ملکیتی چارجز (ای) دوبارہ قبضے میں آنے والی گاڑی کے ٹرانسپورٹیشن چارجز (ایف) دوبارہ قبضے میں آنے والی گاڑی کے تھینڈ چارجز (جی) ماہانہ وئیر ہاؤس چارجز	(اے) پروسیجرنگ فیس (بی) تاخیر سے ادائیگی کی فیس (سی) چیک کی واپسی کے چارجز (ڈی) گاڑی کی دوبارہ ملکیتی چارجز (ای) دوبارہ قبضے میں آنے والی گاڑی کے ٹرانسپورٹیشن چارجز (ایف) دوبارہ قبضے میں آنے والی گاڑی کے تھینڈ چارجز (جی) ماہانہ وئیر ہاؤس چارجز
		7,500 روپے (ناقابل واپسی) - کیس کی منظوری کے بعد 1,500 روپے ہر بار 1,200 روپے ہر بار اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 100,000 روپے اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے اصل اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے
		7,500 روپے (ناقابل واپسی) - کیس کی منظوری کے بعد 1,500 روپے ہر بار 1,200 روپے ہر بار اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 100,000 روپے اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے اصل اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
8	ایچ) اپنی اوڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنا/منسوخ کرنا ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز	بی اوڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنے/منسوخ کرنے/ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز ادھر بیان کئے گئے ”ریمیشنس - سیکشن اے“ کے مطابق
	آئی) این اوڈی اجراء فیس	کچھ نہیں
	جے) ادائیگی سے پہلے کے چارجز	ادائیگی سے پہلے جزوی رقم کا 5% تک پہلے ادا کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ -/50,000 روپے مکمل پری میٹ اصل بقایا کا 4% تک
	کے) وہیکل واپس چارج	اصل
	ایل) آمدنی کے تخمینے کے چارجز (جہاں قابل اطلاق ہوں)	اصل
	ایم) محفوظ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)	-/1,000 روپے یا جیسا کہ GOP وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتا ہے۔
	این) انشورنس پرییم	اصل
	الائیڈ روٹن اپنی کار	
	اے) پروسیڈنگ فیس	7,500 روپے (نا قابل واپسی) - کیس کی منظوری کے بعد
	بی) تاخیر سے ادائیگی کے چارجز	1,500 روپے ہر بار
	سی) چیک کی واپسی کے چارجز	1,200 روپے ہر بار
	ڈی) گاڑی کی دوبارہ ملکیتی چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/100,000 روپے
	ای) دوبارہ قبضے میں آئی گاڑی کے ٹرانسپورٹیشن چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/50,000 روپے
	ایف) دوبارہ قبضے میں آئی گاڑی کے تخمینہ چارجز	اصل
	جی) مابانہ ویر باؤس چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/30,000 روپے
	ایچ) اپنی اوڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنا/منسوخ کرنا ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز	بی اوڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنے/منسوخ کرنے/ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز ادھر بیان کئے گئے ”ریمیشنس - سیکشن اے“ کے مطابق
	آئی) این اوڈی اجراء فیس	کچھ نہیں
	جے) ادائیگی سے پہلے کے چارجز	ادائیگی سے پہلے جزوی رقم کا 5% تک پہلے ادا کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ -/50,000 روپے مکمل پری میٹ اصل بقایا کا 4% تک
9	الائیڈ اسکونی اور الیکٹرک بانیک فنانس	
	اے) پروسیڈنگ فیس	-/5,000 روپے (نا قابل واپسی) - کیس کی منظوری کے بعد
	ب) دیر سے ادائیگی کے چارجز	-/1,500 روپے فی معاملہ
	سی) گاڑی کی دوبارہ ملکیتی چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/75,000 روپے
	ڈی) دوبارہ ضبط شدہ گاڑیوں کے ٹرانسپورٹیشن چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/35,000 روپے
	ای) دوبارہ قبضے میں آئی گاڑی کے تخمینہ چارجز	اصل
	ایف) مابانہ ویر باؤس چارجز	اصل جو بینک خرچ کرے زیادہ سے زیادہ -/20,000 روپے
	جی) الائیڈ بینکر چیک (ABC) چارجز	بینک کے چارجز کے شیڈول میں ریمیشنز کی شرح کے تحت تازہ اجراء/تسلیخ/ڈپلیکیٹ اجراء کے چارجز
	ایچ) این اوڈی اجراء فیس	کچھ نہیں
	آئی) ادائیگی سے پہلے کے چارجز	ادائیگی سے پہلے جزوی رقم کا 5% تک پہلے ادا کیا جائے گا زیادہ سے زیادہ -/15,000 روپے مکمل پری میٹ اصل بقایا کا 4% تک
	جے) آمدنی کے تخمینے کے چارجز (جہاں قابل اطلاق ہوں)	اصل
	کے) محفوظ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)	-/1,000 روپے یا جیسا کہ GOP وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرتا ہے۔
	ایل) انشورنس پرییم	اصل میں

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
	ایم) پی او/ڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنا/منسوخ کرنا / ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز	پی او/ڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنے/منسوخ کرنے/ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز اوپر بیان کئے گئے ”ریمیشنس - سیکشن اے“ کے مطابق
10-	الائیڈ ہوم فنانس / MPM G	6,500/- روپے (ناقابل واپسی) جو کیس کی منظوری کے بعد چارج کیا جائے گا اے) پروسیڈنگ فیس بی) پراپرٹی ویلیویشن فیس سی) لیگل فیس ڈی) انشورنس پرییم ای) قانونی دستاویزات کی رجسٹریشن/انڈیکس ایف) جائیداد کے تحفینے کی فیس/بی او کیو ایو ویلیویشن چارجز جی) تاخیر سے ادائیگی پر چارجز ایچ) آمدنی کے تحفینے کے چارجز (جہاں اطلاق ہو) آئی) چیک کی واپسی کے چارجز جے) اسٹیپ ڈیوٹی (بشمول فنانس ڈاکیومنٹس، ٹائٹل کا انتقال اور مورچہ پر فیکشن ووٹنگ) کے) قبل از تکمیل انتظام کے چارجز (بشمول سولر سسٹم) اے) ادائیگی کے بعد 1 سال سے 3 سال تک اگر سائل فیملیلی کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست کرے گا تو پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ کا 5 % بی) ری مینٹ کے بعد 3 سال سے 7 سال تک اختتام کی درخواست پر 3 % سی) ری مینٹ کے بعد 7 سال سے 10 سال تک اختتام کی درخواست پر 1 % ڈی) فنانس ریلیشن شپ کے دس سال کے بعد کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے ای) تاہم ایل ٹی ایف کی درخواست کے کیسز کو 5 % کی شرح سے جرمانہ کیا جائے گا ایف) میرا پاکستان میرا گھر کے کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے بمطابق اصل ایل) صارف کی جانب سے سہولت وصول کرنے میں تاخیر کی صورت میں سائل کے خرچہ پر مندرجہ ذیل رپورٹس (اگر درکار ہوں تو) حاصل کی جائیں گی۔ ویلیویشن رپورٹ، آمدنی کے تحفینے کی رپورٹ
	ایم) پی او/ڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنا/منسوخ کرنا / ڈپلیکیٹ جاری کرنے کے چارجز	پی او/ڈی ڈی/اے بی سی جاری کرنے/منسوخ کرنے کے چارجز اوپر بیان کئے گئے ”ریمیشنس - سیکشن اے“ کے مطابق
	این) لائف انشورنس پرییم	رقم کے خلاف لائف انشورنس کی لاگت بینک برداشت کرے گا۔ تاہم، اگر بیمہ کنندہ طبی معائنے میں دیکھی گئی کسی غیر معمولی بات کی وجہ سے متفقہ شرح سے زیادہ یا اس سے زیادہ پرییم وصول کرتا ہے، تو قرض لینے والا اضافی پرییم ادا کرے گا۔ پہلی ادائیگی کے 12 ماہ بعد تاخیر کی صورت میں بقایا رقم کا 2 %
11-	الائیڈ روشن اپنا گھر/الائیڈ روشن اپنا گھر MPM G	6,500/- روپے (ناقابل واپسی) جو کیس کی منظوری کے بعد چارج کیا جائے گا اے) پروسیڈنگ فیس بی) پراپرٹی ویلیویشن فیس سی) لیگل فیس ڈی) پراپرٹی انشورنس پرییم ای) قانونی دستاویزات کی رجسٹریشن/انڈیکس ایف) جائیداد کے تحفینے کی فیس/بی او کیو ایو ویلیویشن چارجز جی) تاخیر سے ادائیگی پر چارجز ایچ) آمدنی کے تحفینے کے چارجز (جہاں اطلاق ہو) آئی) چیک کی واپسی کے چارجز جے) اسٹیپ ڈیوٹی (بشمول لیکن فنانس تک محدود نہیں) کے) قبل از تکمیل انتظام کے چارجز (بشمول سولر سسٹم) اے) ادائیگی کے بعد 1 سال سے 3 سال تک اگر سائل فیملیلی کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست کرے گا تو پرنسپل آؤٹ اسٹینڈنگ کا 5 % بی) ری مینٹ کے بعد 3 سال سے 7 سال تک اختتام کی درخواست پر 3 % سی) ری مینٹ کے بعد 7 سال سے 10 سال تک اختتام کی درخواست پر 1 % ڈی) فنانس ریلیشن شپ کے دس سال کے بعد کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے ای) تاہم ایل ٹی ایف کی درخواست کے کیسز کو 5 % کی شرح سے جرمانہ کیا جائے گا ایف) میرا پاکستان میرا گھر کے کوئی چارجز لاگو نہیں ہوں گے بمطابق اصل

سیریل نمبر	تفصیل	الائڈ بینک چارجز کی شرح
	(iii) گودام انسپیکشن چارجز	اے) میونسپل کی حدود کے اندر یا رانچ سے 10 کلومیٹر احاطے کے اندر (بینک کی مد میں شامل کر لئے جائیں گے) 5 ملین روپے تک مبلغ -/1,000 روپے، 5 ملین سے زائد تا 25 ملین روپے تک مبلغ -/2,000 روپے۔ 25 ملین روپے سے زائد تا 50 ملین روپے تک مبلغ -/2,500 روپے، 50 ملین روپے سے زائد مبلغ -/3,500 روپے۔ علاوہ ازیں حقیقی آمدورفت اخراجات - ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ ایک دورہ۔ (بی) مذکورہ بالا مقررہ حدود سے زائد کی صورت میں مذکورہ بالا (اے) میں درج کردہ اخراجات نیز قواعد کے مطابق بی اے ڈی اے (صرف متعلقہ عملے پر لاگو ہوگا)
	(iv) ڈیوری چارجز۔ اگر کوئی گودام/ ویئر ہاؤس کیپری کی تقرری نہیں ہے تو آمدورفت کے چارجز کی بجائی ہوگی وصولی	اصل
	(v) دستاویزات کے لئے دیگر ہنگامی اخراجات/ دیگر قانونی چارجز وغیرہ	اصل
	نوٹ: مذکورہ چارجز کی وصولی کے دوران، قرض لینے والوں سے وصول کی گئی رقم اصل اخراجات سے زیادہ نہیں ہوگی۔ A B L کے اپنے گوداموں کے لیے کوئی گودام کرایہ نہیں ہے۔	
	ایف) الائیڈ ویزا کریڈٹ کارڈ	
	1۔ ویزا کریڈٹ کارڈ (اے) جوائنٹ فیس (بی) سالانہ فیس (i) بنیادی (ii) اضافی سی) سروس چارجز	کوئی چارج نہیں گولڈ -/2,500 روپے، پلائنیم -/5,000 روپے گولڈ -/600 روپے، پلائنیم -/1,200 روپے اے) (ریٹیل کیش اور پی او ڈی ڈی / اے بی سی): آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ مہینہ کا % 2.83 جو % 34 APR میں تبدیل ہوں گے (بی) بیٹلس ٹرانسفر کی سہولت اور الائیڈ ایزی انسٹلمنٹس: آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ مہینہ کا % 2.0 جو % 24 APR میں تبدیل ہوں گے -/1,500 روپے ہر بار -/500 روپے (بی ٹرانزیکشن) یا کیش ٹرانزیکشن کی رقم کا % 3 جو بھی زیادہ ہو بمعہ تمام چارجز جو بھی ایکسپریس بینک کی جانب سے منظور کئے گئے ہیں مزید قابل اطلاق وہ ہولڈنگ ٹیکس پورے دن کی تمام ٹرانزیکشنز پر جن کا کل -/50,000 سے زائد ہو -/500 روپے -/500 روپے یا پی او ڈی ڈی / اے بی سی کا % 3 جو بھی زیادہ ہو بمعہ پی او ڈی ڈی / اے بی سی جاری کرنے کے چارجز
	ایچ) ثالثی چارجز متنازعہ ٹرانزیکشن کے لئے آئی) آؤڈیٹ کے لئے ناکافی فنڈز/ چیک ریٹرن چارجز جے) ڈبلیو سیٹ انشورنس کے) ای۔ اسٹیمٹ ایل) کارڈ ریپیسیٹ فیس ایم) فارن کرنسی ٹرانزیکشن (بین الاقوامی/ سرحد پار)	اصل -/1,200 روپے فی معاملہ -/300 روپے فی معاملہ کوئی چارج نہیں -/500 روپے تک تمام غیر ملکی کرنسی کی ٹرانزیکشن کی تاریخ پر مروجہ انٹرنیشنل یا اوپن مارکیٹ ریٹ سے % 4 تک یا جو بھی قابل اطلاق ہو کسی بھی غیر ملکی کرنسی کی ٹرانزیکشن (ماسوائے یو ایس ڈالر) پہلے امریکی ڈالروں میں منتقل کئے جائیں گے جس کی شرح ویزا کے ساتھ معاہدے کے تحت درج کی گئی ہے۔
	این) پرائمری پاس سالانہ فیس او) پرائمری پاس فی وزٹ فیس پی) پرائمری پاس ریپیسیٹ کارڈ فیس کیو) 1۔ بل کریڈٹ کارڈ کی ادائیگی کے چارجز آر) متحرک کرنسی کا تبادلہ ٹرانزیکشن	کوئی چارج نہیں لاؤنچ وژٹ چارج اصل میں ترجیحی پاس کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ -/600 روپے برمطابق اصل مروجہ 1۔ لنک S O C کے مطابق تمام متحرک کرنسی کی تبدیلی کے لین دین پر سٹیلٹ کی تاریخ پر مروجہ انٹرنیشنل یا اوپن مارکیٹ ریٹ سے % 4 تک، جو بھی قابل اطلاق ہو۔

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(1)	(جی) الائیڈ بینک ڈیجیٹل چینلز	
	الائیڈ یو پی آئی اپنے پاک کو بیجیڈ ڈیبٹ کارڈ	
	(اے) بیک ڈیبٹ کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	2,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,200 روپے
	(بی) یو پی آئی اور پی پاک کلاسک	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	2,800 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,300 روپے
	(سی) یو پی آئی اور پی پاک کلاسک پلس	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	2,900 روپے
(2)	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,300 روپے
	ڈی) یو پی آئی اور پی پاک گولڈ اور ویزا اسٹار	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	3,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,550 روپے
	(ای) یو پی آئی پی پاک الائیڈ رائیٹنگ اشارہ - مائیکر	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	1,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	900 روپے
	الائیڈ VISA ڈیبٹ کارڈ (پرائمری)	
	(اے) کلاسک	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	2,900 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,650 روپے
	(بی) پلاسٹیم ڈیبٹ کارڈ اور ویزا اسٹار 200	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	6,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,650 روپے
	(سی) پرییمیم ڈیبٹ کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	19,500 روپے
	نوٹ: اگر سیونگ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ کیٹیگری میں 2 ملین روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے، تو بینک ایک چارج کرے گا۔ اگلی سالانہ تجدید فیس کی تاریخ تک ماہانہ 3,000 روپے کی نہیں۔ مزید برآں، اگر متعلقہ بچت اور کرنٹ میں اوسط بیلنس اکاؤنٹ پورے سال کے دوران برقرار نہیں رکھا جاتا ہے، اگلے سالانہ تجدید کی تاریخ پر کارڈ کو ڈاؤن گرڈ کیا جائے گا۔ نئے اور موجودہ دونوں پرییمیم ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز کے لیے درخواست دیں۔ غیر ملکی کرنسی کے پرییمیم ڈیبٹ کارڈ کے لیے، F C Y ماہانہ فیس رقم (P K R کے مساوی) متعلقہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ سے وصول کی جائے گی۔	
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	2,500 روپے
	ڈی) ورچوئل ڈیبٹ کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	مفت
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	500 روپے
	(ای) دیگر چارجز - اے ٹی ایم / ڈیبٹ کارڈ / پی پاک / یو پی آئی	
	(i) ثالثی چارجز (جھوٹے بین الاقوامی چلچل بیک کی صورت میں)	بمطابق اصل
	ایف) انٹرنیٹ ڈیبٹ کارڈ	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس	مفت
	نوٹ: ماہانہ اوسط بیلنس کی صورت میں روپے۔ موجودہ میں 5 ملین اور روپے سیونگ اکاؤنٹ میں 10 ملین [آئی ٹی جی کے لیے روپے۔ موجودہ اور بچت میں 10 ملین] برقرار نہیں ہے، روپے 8,000 ماہانہ چارج کیا جائے گا۔ مسلسل تین مہینوں تک مطلوبہ ماہانہ اوسط بیلنس برقرار نہ رکھنے کے بعد، کارڈ کو لائن میں اگلے دستیاب ویریٹنٹ میں نیچے کر دیا جائے گا اور متعلقہ ویریٹنٹ کی جاری کرنے کی فیس وصول کی جائے گی۔	
	(ii) کارڈ کی تبدیلی کی فیس روپے۔	5,000 روپے
	(جی) بزنس ڈیبٹ کارڈ (ایگزٹرز)	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس روپے۔	5,000 روپے
	(ii) کارڈ بدلنے کی فیس	1,650 روپے
	(ایچ) بزنس ڈیبٹ کارڈ (دستخط)	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس	10,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی کی فیس	2,500 روپے

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(3)	الائیڈ ویزا ڈیبٹ کارڈ رجسٹریشن	
	(اے) پلانٹیم ڈیبٹ کارڈ اور ویزا اسٹار 200	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	3,000 روپے
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	1,650 روپے
	(بی) پریمیم ڈیبٹ کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	13,750 روپے
	نوٹ: اگر ماہانہ اوسط بیلنس روپے 2 ملین متعلقہ سیونگ اکاؤنٹ میں برقرار نہیں ہیں، بینک روپے فیس وصول کرے گا۔ اگلی سالانہ تجدید فیس کی تاریخ تک ہر ماہ 3,000- مزید برآں، اگر پورے سال کے دوران متعلقہ سیونگ اکاؤنٹ میں اوسط بیلنس برقرار نہیں رکھا جاتا ہے، تو اگلے سالانہ تجدید کی تاریخ پر کارڈ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا۔ یہ شرائط سنے اور موجودہ دونوں پریمیم ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز پر لاگو ہوں گی۔ غیر ملکی کرنسی کے پریمیم ڈیبٹ کارڈز کے لیے، متعلقہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ سے ماہانہ ایف سی وائی فیس کی رقم (پاکستانی روپے کے مساوی) وصول کی جائے گی۔	
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	2,500 روپے
	(سی) انفیٹ ڈیبٹ کارڈ	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس	مفت
	نوٹ: ہر سہ ماہی کارڈ کی صورت میں، اگر بنیادی کارڈ ہولڈر مطلوبہ ماہانہ اوسط روپے کا بیلنس برقرار رکھنے میں ناکام رہتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں 3 ملین یا روپے بچت میں 5 ملین [آئی بی جی کے لیے 5 ملین روپے کرنٹ اور سیونگ میں] اکاؤنٹ (کرنٹ اکاؤنٹ میں 5 ملین روپے کے درکار ماہانہ اوسط بیلنس کے علاوہ، یا سیونگ اکاؤنٹ میں 10 ملین روپے [آئی بی جی کے لیے 10 ملین روپے کرنٹ اینڈ سیونگ] پر انٹری کارڈ کے لیے)، روپے ماہانہ فیس۔ 8000 وصول کیے جائیں گے۔ اگر سہ ماہی انفیٹ ڈیبٹ کارڈ کے لیے مطلوبہ ماہانہ اوسط بیلنس گناہ تین مہینوں تک برقرار نہیں رکھا جاتا ہے تو سہ ماہی ڈیبٹ کارڈ مستقل طور پر بلاک کر دیا جائے گا۔	
	(ii) کارڈ بدلنے کی فیس	5,000 روپے
(4)	ویزا ڈیبٹ کارڈ - فارن کرنسی	
	(اے) ویزا ایکسٹرا کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 12 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 10 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 12 یورو
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس / اپ گریڈ / ڈاؤن گریڈ	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 6 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 6 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 6 یورو
	(بی) ویزا پلانٹیم کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 25 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 20 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 25 یورو
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس / اپ گریڈ / ڈاؤن گریڈ	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 8 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 8 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 8 یورو
	(سی) ویزا پریمیم کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ تجدید کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 65 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 50 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 60 یورو
	نوٹ: اگر سیونگ اینڈ کرنٹ اکاؤنٹ کی مجموعی رقم 2 ملین روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار نہیں ہے، تو بینک ایک چارج کرے گا۔ اگلی سالانہ تجدید فیس کی تاریخ تک ماہانہ 3,000 روپے کی نہیں۔ مزید برآں، اگر متعلقہ بچت اور کرنٹ میں اوسط بیلنس اکاؤنٹ پورے سال کے دوران برقرار نہیں رکھا جاتا ہے، اگلے سالانہ تجدید کی تاریخ پر کارڈ کو ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا۔ سنے اور موجودہ دونوں پریمیم ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز کے لیے درخواست دیں۔ غیر ملکی کرنسی کے پریمیم ڈیبٹ کارڈز کے لیے، FCY ماہانہ فیس رقم (PKR کے مساوی) متعلقہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ سے وصول کی جائے گی۔	
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس / اپ گریڈ / ڈاؤن گریڈ	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 10 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 10 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 10 یورو

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
	(ڈی) ویزا انفیٹ کارڈ	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس	مفت
		نوٹ: ماہانہ اوسط بیلنس 5 ملین روپے ایف سی وائی کرنٹ میں اور 10 ملین روپے ایف سی وائی سیونگ اکاؤنٹ میں [آئی بی جی کے لیے کرنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں 10 ملین روپے] برقرار نہیں ہے، 8,000 روپے ماہانہ کے برابر چارج کیا جائے گا۔ لگاتار تین ماہ کے اوسط بیلنس کی خلاف ورزی کے بعد، کارڈ کو لائن میں اگلے دستیاب دیرینٹ میں ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا اور نئے جاری کردہ کارڈ کے چارجز وصول کیے جائیں گے۔
	(ii) کارڈ بدلنے کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 18 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 14 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 17 یورو
	(ای) کرنسی کی تبدیلی فیس	
	(i) برائے مقامی ٹرانزیکشن	ٹرانزیکشن کی رقم کا 1 %
	(ii) برائے فارن ٹرانزیکشن جو اکاؤنٹ کرنسی سے مختلف ہو	ٹرانزیکشن کی رقم کا 4 %
(5)	ویزا ڈیبیٹ کارڈ - فارن کرنسی سیلیمنٹری	
	(اے) پلانٹیم ڈیبیٹ کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ / تجدید کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 15 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 10 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 15 یورو
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 6 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 6 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 6 یورو
	(بی) ویزا پریمیم کارڈ	
	(i) اجراء / سالانہ / تجدید کی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 48 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 37 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 44 یورو
		نوٹ: ماہانہ اوسط بیلنس 2 ملین روپے متعلقہ سیونگ اکاؤنٹ میں برقرار نہیں ہیں، تو 3,000 روپے ماہانہ، اگلی سالانہ / تجدید فیس کی تدریج تک چارج کیا جائے گا۔ مزید برآں، اگر پورے سال کے دوران متعلقہ سیونگ اکاؤنٹ میں اوسط بیلنس برقرار نہیں رہتا ہے، تو اگلے سالانہ / تجدید کی تدریج پر کارڈ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے گا۔ یہ شرائط نئے اور موجودہ دونوں پریمیم ڈیبیٹ کارڈ ہولڈرز پر لاگو ہوں گی۔ غیر ملکی کرنسی کے پریمیم ڈیبیٹ کارڈز کے لیے، متعلقہ غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ سے ماہانہ ایف سی وائی فیس کی رقم (پاکستانی روپے کے مساوی) وصول کی جائے گی۔
	(ii) کارڈ کی تبدیلی فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 10 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 10 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 10 یورو
	(سی) ویزا انفیٹ کارڈ	
	(i) سالانہ فیس / جاری کرنے کی فیس / تجدید فیس	مفت
		نوٹ: پرائمری کارڈ کے لیے بیلنس کی ضروریات کے علاوہ، اگر اضافی ماہانہ اوسط بیلنس ایف سی وائی کرنٹ میں 30 لاکھ روپے اور ایف سی وائی سیونگ میں 5 ملین [آئی بی جی کے لیے 5 ملین روپے کرنٹ اینڈ سیونگ میں] اکاؤنٹ برقرار نہیں ہے 8,000 روپے ماہانہ چارج کیا جائے گا۔ مسلسل تین ماہ تک مطلوبہ ماہانہ اوسط بیلنس برقرار نہ رکھنے کے بعد، کارڈ کو مستقل طور پر بلاک کر دیا جائے گا۔
	(ii) کارڈ کی تبدیلی کی فیس / اپ گریڈ / ڈاؤن گریڈ فیس	امریکی ڈالر اکاؤنٹ - 18 امریکی ڈالر برطانوی پاؤنڈ اکاؤنٹ - 14 پاؤنڈ یورو اکاؤنٹ - 17 یورو

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(6)	ای کامرس / پوائنٹ آف سیل (پی او ایس) اے) خریداری کے لین دین پر چارجز (ڈومیسٹک) بی) کرنسی مبادلہ / تبدیلی فیس بین الاقوامی پی او ایس ٹرانزیکشن سی) دینا کارڈ پر مسترد شدہ ٹرانزیکشن فیس (کم بینکس پر) ڈی) اے پی ایم ڈی بیٹ کارڈ کی گھر / دفتر پر ترسیل	مفت آف نیٹ ٹرانزیکشن کی رقم کا 4% یا 100 روپے، جو بھی زیادہ ہو 90 روپے فی ٹرانزیکشن تمام غیر ملکی کرنسی اور لوکل ٹرانزیکشن پر لاگو مفت
(7)	اے پی ایم ٹرانزیکشن چارجز اے) کیش نکالنے / ٹرانزیکشن پر چارجز (ڈومیسٹک) - آن نیٹ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں ہے) بی) کیش نکالنے / ٹرانزیکشن پر چارجز (ڈومیسٹک) - آف نیٹ سی) اے پی ایل اے پی ایم سے کیش نکالنا۔ برائے فارن کارڈز ڈی) کرنسی مبادلہ / تبدیلی فیس (غیر ملکی کرنسی میں طے شدہ برائے تمام پاک روپے / FCY ٹرانزیکشن) ای) بینکس انکوائری پر چارجز آن نیٹ ایف) بینکس انکوائری پر چارجز آف نیٹ جی) بینکس انکوائری پر چارجز (بین الاقوامی) ایچ) اسٹراکاوٹس فنڈ ٹرانسفر بذریعہ اے پی ایم (ڈومیسٹک) - اے پی ایل کے اندر) آئی) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ اے پی ایم (ڈومیسٹک) جے) بائیومیٹرک کارڈ لیس ٹرانزیکشن فیس (صرف ہمارے لئے) کے) گیس بیٹ چارجز اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے ایل) اختیاری رسید اے پی ایم سے کیش نکالنے اور بینکس چیک کرنے پر (آف نیٹ) ایم) اختیاری رسید اے پی ایم سے کیش نکالنے پر (آن نیٹ) اور بینکس انکوائری این) بذریعہ اے پی ایم اور مائی اے پی ایل ڈی بیٹ کارڈ کی عبوری لمٹ بڑھانے کی فیس i) اے پی ایم سے کیش نکالنا ii) پی او ایس / ای کامرس iii) اے پی ایل سے اسٹراکاوٹ فنڈ ٹرانسفر (ڈومیسٹک) - اے پی ایل کے اندر) iv) اے پی ایم سے اسٹراکاوٹ فنڈ ٹرانسفر (ڈومیسٹک)	کوئی چارجز نہیں 35/- روپے بشمول ایف ای ڈی یا اسلٹک کے ذریعے قابل اطلاق 1,000 روپے فی ٹرانزیکشن بمع ایف ای ڈی ٹرانزیکشن کی رقم کا 4% یا 100 روپے، جو بھی زیادہ ہو کوئی چارجز نہیں 5.29/- روپے فی انکوائری یا اسلٹک کے ذریعے قابل اطلاق 250/- روپے فی انکوائری مفت 0.1% یا 200 روپے جو کم ہو (ایف ای ڈی شامل ہے) ہر اکاؤنٹ سے ماہانہ 25,000 روپے تک مفت ٹرانسفر 15 روپے فی ٹرانزیکشن کارڈ ایکٹیویشن سروس بذریعہ بائیومیٹرک اے پی ایم مفت ہے یہ سہولت مفت ہے 4.67/- روپے بشمول ایف ای ڈی یا اسلٹک کے ذریعے قابل اطلاق 4.67/- روپے بشمول ایف ای ڈی یا اسلٹک کے ذریعے قابل اطلاق ایک / آسان 200 روپے کلاسک / کلاسک پلس 250 روپے گولڈ / سیفائر 300 روپے پلاٹینم / سیفائر 200، 400 روپے پریمیئم 600 روپے انٹرنٹ 1,000 روپے بزنس اسٹینڈرڈ 500 روپے بزنس سیکنچر 1,000 روپے الائیڈ بینک اکاؤنٹ مفت دوسرے بینک اکاؤنٹس - کیش ڈپازٹ (ٹرانزیکشن کی رقم) (چارجز) 10,000 تک 100 روپے 10,001 سے 100,000 تک 150 روپے 100,001 سے 250,000 تک 300 روپے 250,001 سے 500,000 تک 500 روپے 500,001 سے اوپر 0.1% یا 1,000 روپے جو بھی زیادہ ہے۔

نوٹ:

اے) کارڈ کے اجراء پر سالانہ فیس کیلنڈر سال میں ایڈوانس صورت میں ہی ریکور ہوگی۔ جو کہ اکاؤنٹ بند ہونے پر ناقابل واپسی ہوگی۔ تمام چارجز فیس فی کارڈ کی بنیاد پر قابل اطلاق ہوں گے۔
(بی) الائیڈ بینک کے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پاکستانی روپے یا آن لائن یا بین الاقوامی مرچنٹ کے ذریعے کسی بھی غیر ملکی کرنسی میں کی جانے والی کوئی بھی ٹرانزیکشن، جو کہ غیر ملکی کرنسی میں طے کی گئی ہے، موجودہ انٹرنیٹ بینک یا اوپن مارکیٹ ریٹ، جو بھی قابل اطلاق ہو، سیٹلمنٹ کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کرنسی کی تبدیلی کی فیس کے ساتھ مشروط ہوگی۔

(سی) آن نیٹ سے مراد اے بی ایل کے اے ٹی ایم نیٹ ورک پر کی جانے والی ٹرانزیکشنز ہیں۔

ڈی) آف نیٹ سے مراد دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم نیٹ ورک پر کی جانے والی ٹرانزیکشنز ہیں (1 لنک نیٹ ورک)۔

ای) ناخواندہ صارفین صرف ABL بنیادی ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ایف) ویزا فارن کرنسی ڈیبٹ کارڈ کے لیے، ٹرانزیکشنز کی تاریخ پر ABL کی موجودہ شرح مبادلہ تبدیلی کے لیے لاگو ہوگی جہاں ٹرانزیکشنز کی کرنسی اکاؤنٹ کی کرنسی سے مختلف ہوتی ہے

اور اس کے علاوہ وہ فیصد جو ABL کرنسی کی تبدیلی کے لیے وصول کرتا ہے۔

جی) الائیڈ رانزنگ اسٹارزمرہ کے پاس مئی اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کارڈ کا مفت اجراء (پہلے سال کی سالانہ فیس نہیں لی جائے گی)۔

ایچ) الائیڈ فری لائسنسزمرہ کے اکاؤنٹس کے لیے UPI پے پاک کلاسک ڈیبٹ کارڈ کا مفت اجراء (پہلے سال کی سالانہ فیس نہیں لی جائے گی)۔

	(8)	مائی اے بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ (اے) مائی اے بی ایل پرنٹ انٹرنیٹ بینکنگ (i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ
مفت مفت اے بی ایل سے اے بی ایل۔ مفت پے اپنی ون ٹرانسفر 200 روپے فی ٹرانزیکشن (راست کی ٹرانزیکشن مفت) 0.1% یا 200 روپے جو کم ہو (ایف ای ڈی شامل ہے) ہر اکاؤنٹ سے ماہانہ 25000 روپے تک مفت ٹرانسفر (راست کی ٹرانزیکشن مفت) یہ سہولت مفت ہے پروسیسنگ فیس: قرض کی رقم پر ماہانہ 3% یا 370 روپے جو بھی زیادہ ہو۔ دیر سے ادائیگی کی فیس: بقایا اصل رقم پر 3.5% فی ماہ۔	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	
ٹرانزیکشن کی رقم کا 3.50% تک 75,000 روپے تک سالانہ یا معاہدے کے مطابق 50,000 روپے تک یا معاہدے کے مطابق 35 روپے تک فی ٹرانزیکشن یا ٹرانزیکشن کی رقم کا 1.5% تک جو بھی زیادہ ہو۔ 1.60% تک فی ٹرانزیکشن یا معاہدے کے مطابق	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	
ملک اپ قرض کی رقم کا 1.5% ماہانہ پروسیسنگ فیس کوئی پروسیسنگ فیس نہیں۔ ملک اپ 3 ماہ کا کابور + وہ اسپرڈ جو کارپوریٹ اینکر یا سپلائر / ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ طے کیا گیا ہو۔ پروسیسنگ فیس 2,000 روپے تک، سہولت کی حد کی منظوری کے وقت۔	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	
چارجز کلائنٹ کے ساتھ کسی نوٹس کی بنیاد پر طے کئے جائیں گے (الائیڈ بروئرس اکاؤنٹس کے لئے مائی اے بی ایل بروئرس انٹرنیٹ بینکنگ پر کوئی رجسٹریشن چارجز نہیں)	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	
مفت مفت	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	(9)
مفت مفت مفت مفت نوٹ اوسط ماہانہ: بیلنس کی شرط متعلقہ ڈیبٹ کارڈ پر سیکشن "جی" کے مطابق لاگو ہوگی، جو پریکٹیم اور انفیٹنیٹ ڈیبٹ کارڈز (FCY اور دو نوٹوں) پر نافذ ہوگی۔ مفت مفت	(i) مائی اے بی ایل رجسٹریشن چارجز (ii) مائی اے بی ایل سالانہ سسکرپشن چارجز (iii) اپنے اکاؤنٹ یا کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹس اور بے اپنی ون میں فنڈ ٹرانسفر۔ (الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹ ہولڈرز پر لاگو نہیں) (iv) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر بذریعہ مائی اے بی ایل (ڈومیسٹک) (v) ٹیکس سیٹل چارجز (بی 2 جی) اے ڈی سی اور او ڈی سی دونوں کیلئے (vi) پے ڈے فنانس (vii) مرچنٹ کا حصول (viii) الائیڈ ویمپل فنانس (ix) سپلائی چین فنانسنگ	(10)

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(11)	(v) انٹرنیٹ بینک فنڈ ٹرانسفر چارجز	مفت
	(vi) اکاؤنٹ میینٹیننس چارجز	مفت
	(vii) ایس ایم ایس الارٹ چارجز	مفت
	(viii) آڈیٹرز کے علاوہ صارفین کو درکار بینکس کی تصدیق اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ	مفت
	(ix) آؤٹ ورڈ ری میٹیننس	مفت
	(x) اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز	مفت
	این آر بی برنس ویلیو اکاؤنٹ / فارن کرنسی اکاؤنٹ / برنس ویلیو اکاؤنٹ	
	(i) چیک بک	مفت
	(ii) چیک بک کی فراہمی	مفت
	(iii) انٹرنیٹ فنڈ ٹرانسفر چارجز	مفت
	(iv) اکاؤنٹ میینٹیننس چارجز	مفت
(12)	(v) ایس ایم ایس الارٹ چارجز	مفت
	(vi) آڈیٹرز کے علاوہ صارفین کو درکار بینکس کی تصدیق اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ	مفت
	(vii) آؤٹ ورڈ ری میٹیننس	مفت
	(viii) اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز	مفت
	(ix) برنس انٹرنیٹ بینکنگ پراجیکشن	مفت
	آئی وی آر فون بینکنگ	
	(اے) فنڈ ٹرانسفر - صارف کے اپنے اکاؤنٹ میں	50 روپے فی ٹرانزیکشن
	(بی) فنڈ ٹرانسفر - کسی بھی اے بی ایل اکاؤنٹ میں	50 روپے فی ٹرانزیکشن
	ایچ) متفرق چارجز	
	چیک بک کا اجراء	
(1)	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 25 روپے فلیٹ فی لیف (علاوہ ABA) PLS اکاؤنٹ اکاؤنٹس کے لیے 40 روپے فلیٹ فی لیف FCY اکاؤنٹس کے لیے 5 امریکی ڈالر فی چیک بک 25 لیف یا اس کے مساوی دیگر غیر ملکی کرنسی۔ اس کے علاوہ قابل اطلاق ڈسپنچر / کمپینشن چارجز سٹیشن میں ٹیرف کے مطابق۔ چیک بک کی درخواست کے وقت چارجز متعلقہ اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کیے جائیں گے۔	
(2)	ادائیگی روکنے کی ہدایات	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 750 روپے فی ہدایات بچت اکاؤنٹ کے لیے 1,200 فی ہدایت FC اکاؤنٹس کے لیے 10 امریکی ڈالر فی ہدایات (یا دیگر غیر ملکی کرنسیوں میں اس کے مساوی) اور FC پچس / ڈرافٹس -
(3)	سٹینڈنگ ہدایات (اے) سٹینڈنگ ہدایات فیس	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے ماسوائے لون کی اقساط کی کٹوتی کے فی ٹرانزیکشن 200 روپے بچت اکاؤنٹ کے لیے ماسوائے لون کی اقساط کی کٹوتی کے فی ٹرانزیکشن 500 روپے بعد ٹرانزیکشن کے تمام چارجز جو ان سٹینڈنگ انٹرکٹن میں دیے گئے ہیں جیسا کہ اس سے متعلقہ ٹرانزیکشن میں قابل نفاذ شرح ہوگی فی کوشش 200 روپے
(4)	چیک ریٹرن چارجز (اے) چیک ریٹرنڈ انورڈ کلیمنگ: (اگر کسی اکاؤنٹ ہولڈر کی غلطی کے باعث چیک ریٹرن ہوا ہے جیسا کہ اکاؤنٹ میں بینکس نا کافی ہیں، چیک لکھنے والے کے دستخط نامکمل مختلف ہیں، یا چیک پر سائن نہیں ہیں، چیک پر کچھ لکھا ہوا ہو، چیک لکھنے والے کی جانب سے رقم کو روک دیا گیا ہو، ریویو سٹیپ لگانا باقی ہو، چیک منہ شدہ ہو وغیرہ)	کوئی چارج نہیں
(5)	کلیئرنگ چارجز (اے) اسی دن کلیئرنگ (جب اندراج کیا جائے) (بی) انٹرنیٹ کلیئرنگ (جب اندراج کیا جائے)	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 550 روپے بچت اکاؤنٹ کے لیے 700 روپے (بشمول این آئی ایف ٹی چارجز) کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 550 روپے بچت اکاؤنٹ کے لیے 700 روپے (بشمول این آئی ایف ٹی چارجز) (راولپنڈی - اسلام آباد ایک شہر متصور ہوں گے)

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(6)	سی) ریوٹ ایریا کیریجنگ	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 0.25% کم از کم 200 روپے، زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے چھٹ اکاؤنٹ کے لیے 0.25% کم از کم 400 روپے، زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے اس کے علاوہ دیگر جمع کرنے والے بینکوں کے اصل چارجز اگر کوئی ہیں۔ میں سیکشن 1 میں ٹیرف کے مطابق قابل اطلاق ڈسپنچ/کمپوٹیکیشن چارجز۔
	بینک سرٹیفکیٹس	
	اے) بینک کی تصدیق	کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 300 روپے فی سرٹیفکیٹ سیونگ اکاؤنٹ کے لیے 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
	بی) اکاؤنٹ منیجمنٹس	500 روپے فی سرٹیفکیٹ
(7)	سی) دو ہولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ	مفت
	اکاؤنٹ بند کرنے کے ضمن میں چارجز	مفت
	اے) لوکل کرنسی اکاؤنٹ	مفت
	بی) فارن کرنسی اکاؤنٹ	مفت
(8)	اکاؤنٹ منیجمنٹس چارجز	
	اے) تمام اکاؤنٹس پر سروس چارجز جن میں کم از کم ماہانہ اوسط بیلنس درج ذیل سے کم ہو	
	(i) بی اے اکاؤنٹس۔۔۔ 50,000 روپے	
	(ii) کرنٹ اکاؤنٹس۔۔۔ 25,000 روپے	
(9)	(جہاں ضروری ہو)	
	(iii) سیونگ پروڈکٹس 10,000 روپے	
	(عمومی سیونگ اکاؤنٹس کے علاوہ)	
	بی) فارن کرنسی اکاؤنٹس	
(9)	اگر فارن کرنسی اکاؤنٹس میں اوسط بیلنس ایک مہینے کے دوران درج ذیل سے کم ہو	
	(i) نیو ایف سی والے اکاؤنٹس پر	
	یو ایس ڈی۔۔۔ 500	
	جی بی پی۔۔۔ 500	
(9)	یورو۔۔۔ 500	
	جے پی وائے 50,000	
	(ii) منجمد اکاؤنٹس پر	
	یو ایس ڈی۔۔۔ 500	
	جی بی پی۔۔۔ 500	
	یورو۔۔۔ 500	
	جے پی وائے 50,000	
(9)	نوٹ: RDA کے لیے کم از کم بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔	
	سی) صرف پیرٹ برانچ میں الائیڈ بینک بینکنگ اکاؤنٹس پر	
	سروس چارجز	
	(i) ایک مہینے کے دوران 2 مرتبہ رقم نکالوانے اور جمع کروانے	
(9)	بذریعہ برانچ کاؤنٹر	
	(ii) اضافی ٹرانزیکشنز	
	(iii) رقم نکالوانا بذریعہ ای بی ایل / ای ٹی ایم / وی ڈی سی	
	کوئی چارجز نہیں	
(9)	(i) کوئی چارجز نہیں	
	(ii) برانچ کاؤنٹر سے جمع کروانے / نکالوانے پر 50 روپے	
	(iii) کوئی چارجز نہیں	
	نوٹ درج ذیل اکاؤنٹس سروس چارجز سے مستثنیٰ ہیں:	
(9)	(i) سرکاری، نیم سرکاری، سرکاری اداروں کے سیکریٹری اکاؤنٹ منیجمنٹ اور خیراتی فنڈز بشمول بیواؤں، مرحوم سرکاری ملازمین کے بچوں کے اکاؤنٹس جو فیملی منیجمنٹ لینے کے قابل ہیں، خیراتی اور امدادی فنڈز وغیرہ۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں (ii) مستحقین زکوٰۃ (iii) زکوٰۃ اکاؤنٹس جنہیں زکوٰۃ اکٹھا کرنے اور تقسیم کرنے کے لئے ترتیب دیا گیا ہے (iv) طلباء (v) ای بی ایل ملازمین کے سیکریٹری اکاؤنٹس (vi) مرحومین کے اکاؤنٹس (vii) کوئی بھی اکاؤنٹ جسے کیش منیجمنٹ یا کسی بھی خاص وجہ سے بینک کی طرف سے مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ (viii) الائیڈ رازنگ اسٹار پروڈکٹ کٹیگری اکاؤنٹس (ix) الائیڈ فری لانس پروڈکٹ کٹیگری اکاؤنٹس	
	50 روپے فلیٹ	
	الائیڈ برنس فنانس صارفین کے لئے eCIB چارجز نہیں ہو گئے۔	
	ای سی آئی بی (eCIB) چارجز	

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(10)	ڈبلیکٹ/ اضافی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کی پرنٹنگ	6 ماہ کی مدت کے لیے 35 روپے (بشمول FED) ہر اضافی مدت کے لیے 35 روپے (بشمول FED) اگلے 6 ماہ تک ایف سی وائی اکاؤنٹ کے لئے ایف سی وائی اکاؤنٹ سے روپوں کے برابر چارجز کاٹ لئے جائیں گے
(11)	اکاؤنٹ کا الیکٹرانک سٹیٹمنٹ (e-SOA) چارج	روزانہ 600 روپے/ ماہانہ ہفتہ وار 80 روپے/ ماہانہ نصف ماہ کے لیے 40 روپے/ ماہانہ ماہانہ وار 20 روپے/ ماہانہ ششماہی کے لیے (ریگولیری) مفت
(12)	اوشدہ چیکس کی فوٹو کاپی صارفین کو مہیا کرنے کیلئے	ایک سال تک پرانے چیک کے لئے 200 روپے فی چیک ایک سال سے پانچ سال پرانے چیک 500 روپے فی چیک پانچ سال سے زائد پرانے چیک کے لئے 750 روپے فی چیک
(13)	سرمایہ کاروں کا پورٹ فولیو اکاؤنٹ (آئی پی ایس)	کوئی چارجز نہیں
	اے) آئی پی ایس مینٹیننس اکاؤنٹ چارجز بی) آئی پی ایس ٹرانزیکشن چارجز	مفت نوٹ: آر ٹی جی ایس چارجز ایس او سی (SOC) کے مطابق رہیں گے
(14)	SMS الرٹس کا ونٹرنل سیکشنز کے لیے	مبلغ 200 ہر ماہ ہر کرنٹ اکاؤنٹ کے لئے/ سیویج 400
(15)	مالکان کی جانب سے سیکری کی تیسری کی سروس پر چارجز بینک کے ساتھ کسی بھی رسمی نظام کے بغیر	فی سیکری اکاؤنٹ فی ماہ 50 روپے
	نوٹ: ان صارفین کی سیکریز پر چارجز کا اطلاق نہیں ہوگا اے) گورنمنٹ/ سٹی گورنمنٹ اور آرڈر فورسز بی) ایسٹرنز جو متعلقہ چیف آئی بی جی سے برنس ریسر وٹی کی بنیاد پر منظور شدہ ہوں	
(16)	کولکشن اکاؤنٹس پر چارجز (کیش منجمنٹ ازمنجمنٹ)	چارجز مینڈیٹ کے مطابق لاگو ہوں گے۔
(17)	ڈیوڈنڈ وارنٹ	
	اے) ڈیوڈنڈ وارنٹ پر چارجز (ڈیوڈنڈ ڈکلیئرنگ کمپنیز سے باز یا ب کروائے جائیں گے)	تقسیم شدہ رقم کا 0.30% - کم از کم 10,000 روپے
نوٹ:		
اے) ان صارفین کے ساتھ ڈیوڈنڈ وارنٹ چارجز قابل معاملت ہیں جو مکمل ڈیوڈنڈ اکاؤنٹ ایڈوانس میں یا 50 ملین ادا کریں گے، ان میں سے جو بھی ڈیوڈنڈ اکاؤنٹ (Current Remuneration) ڈیوڈنڈ وارنٹ کی ادائیگی کے لئے کم ہوگی۔ بی) اگر ڈیوڈنڈ وارنٹ بذریعہ بینک کی جانب سے متعلقہ پرنٹ شدہ نہیں ہیں اور اگر پتہ چلے کہ ڈیوڈنڈ وارنٹ کو ادائیگی کی پروسیجر کے دوران NIFT نے منسوخ یا انکار کر دیا تھا تو نان سٹینڈرڈ انسٹرومینٹ پر لاگو NIFT کے اصل چارجز ڈیوڈنڈ ڈکلیئرنگ کمپنی سے باز یا ب کروائے جائیں گے۔		
(18)	آن لائن پورٹل کے ذریعے انفارمیشن کا ڈاکومنٹس کے لیے ایس ایس سی پی کی فیس بمطابق	اصل
(19)	کسٹمر کے ڈاک کے پتہ پر چیک بک پہنچانے کے اخراجات (کسٹمر کی تحریری درخواست کے مطابق)	فی چیک بک (فلیٹ) 300 روپے ٹیرف کے مطابق سیکشن 1 کے تحت لاگو سپیج/ کمپوٹیشن چارجز
(20)	نادر سے ورثاتی سرٹیفکیٹ کی تصدیق کے چارجز	بمطابق اصل
(21)	پرائز بانڈ کی انعامی رقم کی ادائیگی	NPB کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے 300 روپے فی حصہ NPB سیویج اکاؤنٹ کے لیے 600 روپے فی حصہ بمطابق اصل CIT چارجز
(22)	چیک بک سیف کیپنگ اور ڈسٹرکشن چارجز (اگر 60 دنوں کے اندر جمع نہیں کیا جاتا ہے)	7 روپے فی چیک مفت چیک، اوپر درج نمبر 1 میں مذکور ٹیرف کے مطابق وصول کیا جائے گا۔
(23)	تاریکین وطن/ اورریز ایپلائیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کے اجراء کی فیس	فلیٹ 200 روپے فی سرٹیفکیٹ
(24)	نئے لاکر مینڈیٹ کا اضافہ	فلیٹ 300 روپے فی مینڈیٹ
(1)	آئی/ ترسیل/ ابلاغ چارجز	
	محصول ڈاک - عمومی	
	اے) مقامی - (ایک شہر کے اندر)	فلیٹ 30 روپے فی آرکیٹم
	بی) ان لینڈ (انٹرنیٹ)	فلیٹ 50 روپے فی آرکیٹم

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(2)	محصول ڈاک - رجسٹرڈ (اے) مقامی - (ایک شہر کے اندر) (بی) ان لینڈ (انٹرنی) (سی) بیرون ملک (ڈی) ان لینڈ LC کے لئے (ای) فارن امپورٹ LC کے لئے	فلیٹ 50 روپے فی آنیٹم فلیٹ 70 روپے فی آنیٹم فلیٹ 200 روپے فی آنیٹم فلیٹ 200 روپے فی آنیٹم فلیٹ 1,200 روپے فی آنیٹم
(3)	کورئیر (اے) مقامی - (ایک شہر کے اندر) (بی) ان لینڈ (انٹرنی) (سی) بیرون ملک	فلیٹ 125 روپے فی آنیٹم فلیٹ 250 روپے فی آنیٹم فارن 3,500 روپے ہر 0.5 کلوگرام وزن پر یا اس کے بقیہ حصہ پر یا اصل جو بھی زیادہ ہو
(4)	سوئفٹ (اے) مکمل ٹیکسٹ LC گارنٹی پیغامات (بی) LC گارنٹی ترمیمی پیغامات (سی) دیگر تمام SWIFT پیغامات نوٹ: یہ چارجز ٹریڈ کیلنڈری سے براہ راست اور اسی طرح انٹرنل کیونٹیکیشن پر لاگو نہیں ہوں گے	فلیٹ 2,000 روپے فی آنیٹم فلیٹ 700 روپے فی میج فلیٹ 700 روپے فی میج
(1)	انٹرنیشنل بینکنگ (ج) درآمدات کیش لیٹر آف کریڈٹ - اجراء اے کریڈٹ اوپننگ کمیشن کے کیش لیٹر - سالانہ برنس 25 ملین تک 25 ملین سے زیادہ 50 ملین تک 50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک 100 ملین سے زیادہ نوٹ: (اے) مصالحتی رٹس چیف سی آئی بی جی / سی آر پی جی اور آرا ایم جی کے تصدیق شدہ ہیں (بی) سالانہ ولیم کا تعین اور تصدیق چیف سی آئی بی جی / سی آر پی جی سے ہوگی (سی) صارف کی جانب سے کمینٹ لیٹر برنس کمینٹ میں شارٹ فال کے باعث کمیشن عینیت میں فرق کا حصول آن ریکارڈ ہوگا۔ ہر صارف کے کمینٹ لیٹر کی کاپی ٹریڈ کیلنڈری کو مانیٹرنگ کے لئے بھیجی جائے گی اور کمیشن میں کسی بھی قسم کے فرق کی بحالی سال کے آخر میں ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی چھوٹی سی ای او کی جانب سے دی جائے گی۔ جو کہ متعلقہ چیف سی آئی بی جی / سی آر پی جی اور آرا ایم جی کی جانب سے مجوزہ ہوں۔ (بی) ناقابل واپسی لیٹر بارڈر کریڈٹ / قرضہ جات کے تحت	جلی سہ ماہی یا اس کا حصہ ہر آئندہ سہ ماہی یا اس کا حصہ 0.40% 0.25% 0.35% 0.20% 0.30% 0.20% قابل معاملت تمام مندرجہ بالا معاملات میں فی ایل سی ٹی سہ ماہی کم از کم 2,000 روپے بمع کمیشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسٹنچ / خط و کتابت کے اخراجات مع ایل سی ٹی کنفرمیشن چارجز اصل کے مطابق اگر لاگو ہوتے ہیں تو بمع بینکنگ چارج 500 روپے (فلیٹ) اور کمیشن 0.10% کی شرح سے، اگر امپورٹ بل کی ادائیگی ریٹینشن کے ذریعے دوسرے بینک کو ہوئی نوٹ: اگر کرنٹ اکاؤنٹ پر LC 100% کیش مارجن / لین کے ساتھ کھولی جائے تو کوئی کمیشن چارج نہیں کیا جائے گا صرف لاگو ڈسٹنچ کیونٹیکیشن چارجز ٹیرف کے کمیشن (آئی) کے مطابق یا تمام اصل آؤٹ آف پاکٹ ایکسچینجر جلی سہ ماہی یا اس کے کچھ حصہ کے لئے 1% تاہم ہر بعد میں آنے والی سہ ماہی یا اس کے کچھ حصہ کیلئے 0.30% کم سے کم - 1,500 روپے 0.40% فی سہ ماہی تاہم مکمل جینیٹ تک کم از کم - 2,000 روپے بعو قابل اطلاق ڈسٹنچ کیونٹیکیشن چارجز کمیشن 1 کے ٹیرف کے مطابق ایل سی کے کھلنے کے وقت کمیشن کو ایل سی کی مکمل قیمت پر چارج کیا جائے گا بمع ایل سی کی اوپننگ اور تنفیسی تاریخ پر انٹرسٹ کے تاہم کمیشن کی بحالی اس وقت کی تاریخ کے قابل اطلاق چارجز شیڈول کے مطابق چھ ماہ کی آؤٹ سٹینڈنگ ریڈیوسٹنگ لاپٹی کی بنیاد پر ہوگی۔
(2)	ترانیم (اے) اماؤنٹ میں اضافے کے بغیر مدت میں توسیع (بی) اماؤنٹ میں اضافے کے ساتھ اور / یا مدت میں توسیع	1,500/- روپے فی ٹرانزیکشن (فلیٹ) بمع قابل اطلاق ڈسٹنچ کیونٹیکیشن چارجز کمیشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق اجزاء کمیشن ایل سی کی قسم / نوعیت کے مطابق ہوگا جیسا کہ مندرجہ بالا سیریل نمبر (1) (a), (1) (b), (1) (c) یا (1) (c) میں درج ہے بمع کمیشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسٹنچ / خط و کتابت کے اخراجات

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(3)	تجدید (LC ایکسپائری کے بعد مدت میں توسیع)	ایل سی کی پرانی معاہدہ ختم ہونے سے نئی معاہدہ ختم ہونے تک کمیشن وصول کیا جائے گا اور اس پر نئی ایل سی کھولنے کی صورت میں اس ریٹ کا اطلاق ہوگا جو کہ سیریل نمبر 1 - J میں اوپر درج ہے (ایل سی کے کمیشن کا حساب واجبات کی رقم پر ہوگا جو موجودہ ایکسیجنگ ریٹ کی بنا پر ہوگا جس دن اس کا دوبارہ تجدید جاری ہوگا) دوبارہ تجدید لگانے کے کمیشن کے واجبات درخواست گزار کی جانب سے زائد المعیاد ایل سی کے ختم ہونے کے اخراجات اوپننگ بینک کا ونٹر جمع کروانے پر ہونگے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات
(4)	تین سی چارجز	2,000 روپے فی ایل سی جمع سیکشن 1 کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات
(5)	ٹرانسفر کمیشن	نئی ایل سی کھولنے پر ٹرانسفر کمیشن موجودہ شرح کے مطابق ہونگے (سیریل نمبر 1 - J اوپر) جمع دوبارہ تجدید کے چارجز (سیریل نمبر 3 - J) اگر ایل سی کا تجدید دوبارہ لگوا یا گیا ہے اور اس کے ساتھ نے بینیفیٹری کو منتقل کردی گئی ہے۔ جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج خط و کتابت کے اخراجات بعد قابل اطلاق ڈسکیج کیونکہ کمیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن (آئی) کے مطابق
(6)	سائٹ LC کے تحت امپورٹ بلز - دستاویزات کے مقابل ادائیگی (کیش مارجن کا PAD ٹیٹ)	بل امانت پر 0.15% یا کم از کم 1,200 روپے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات
	(اے) سروس چارجز	
	(بی) کمیشن	کوئی کمیشن نہیں
	(i) اگر بل گوشوارے / ویلیو ڈیٹ پر نظر آنے والی معاملت کی تاریخ کے 15 دن کے اندر ادا کر دیا گیا ہے (جو بھی قابل اطلاق ہو) یا کرایہ پر رکھنے کی تاریخ سے / ادائیگی کی تاریخ تک براہ کج کی جانب سے ریمیٹنس	
	(ii) کمیشن اگر بل کرایہ پر رکھنے کی تاریخ سے 16-30 دن کے اندر ادا کر دیا گیا ہو	خریداری کی قیمت پر 0.25%
	(سی) PAD امانت پر مارک اپ کی ریکوری (کیش مارجن کا ٹیٹ LC کے کھلنے سے قائم ہے یا دستاویزات پر معاملت سے پہلے)	
	(i) خاص منظوری کی صورت میں	مارک اپ منظور شدہ ریٹ کی شرح سے نافذ ہوگا جس کا اطلاق NOSTRO کا وونٹ یا PAD لو جمنٹ جو بھی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پہلے ہو اس کے تحت ہوگا اگر کوئی کیش مارجن کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو اس کے بعد۔
	(ii) کسی بھی خاص منظوری کے نہ ہونے کی صورت میں	مارک اپ کی شرح 3 ماہ KIBOR جمع 5% سالانہ کے حساب سے ہوگی
	ڈی (مانی کے واجب الادا قرض (PDO) اگر بل 30 دن کے اندر ایڈجسٹ نہ ہوا	
	(i) PDO کو ٹرانسفر پر کمیشن	قیمت خریداری پر 0.35%
	(ii) PDO کو ٹرانسفر کے بعد مارک اپ	پی ڈی اور دورانیہ کے لئے 3 ماہ KIBOR جمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو چارج کیا جائے گا ایف ای - 25 فنانس کے برخلاف پی ڈی او کیسز کے لئے جہاں برانچ میں منظوری دستیاب نہ ہو تو یہ کردہ متفق شدہ شرح ریٹ سے 4% زیادہ کے حساب سے مارک اپ چارج کیا جائے گا۔
	(iii) مارک اپ امپورٹ بلز پر Forced FIM کے تحت بل کی ادائیگی نہیں کی گئی اور پارٹی کے پاس FIM سہولت کے تحت کوئی اجازت منظوری نہیں ہے۔	(اے) 3 ماہ KIBOR جمع 10% یا 20% سالانہ پر مارک اپ چارج کیا جائے گا (بی) پریچر پرائس پر 0.40% بعد بینک کمیشن
(7)	Usance LC کے تحت امپورٹ بلز منظوری	
	(اے) سروس چارجز	0.15% یا کم از کم 750 روپے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات
	(بی) کمیشن	
	(i) اگر بل مقررہ تاریخ کے اندر ادا کیا گیا ہے	(اے) کمیشن 1,000 روپے فلیٹ فی بل (اگر ایل سی کی معاہدہ کے اندر ایڈجسٹ کئے گئے) (بی) کمیشن 0.15% فی ماہ یا جز کے حصہ کے مطابق کم از کم 1,000 روپے فی بل ایل سی کی مدت ختم ہونے سے (اگر بل ایل سی کی معاہدہ ختم ہونے بعد ایڈجسٹ ہوا) جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات
	(ii) اگر بل مقررہ تاریخ کے اندر ادا نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ LC ادائیگی بذریعہ فنانس اکیسٹ ڈس آرڈر بل (FADB)	کمیشن کی شرح فلیٹ 0.40% کم از کم 1,000 روپے جمع ایکٹر کمیشن 0.10% فی ماہ ایل سی کی معاہدہ ختم ہونے کی تاریخ سے وصول کی جائے گی مارک اپ بطابق درج ذیل سیریل نمبر (7) J جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکیج / خط و کتابت کے اخراجات

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(8)	(سی) مارک اپ	کوئی مارک اپ نہیں
	(i) اگر بل مقررہ تاریخ کے اندر ادا کیا گیا ہے	
	(ii) اگر بل مقررہ تاریخ کے اندر ادا نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ LC کی ادائیگی بذریعہ فنانس ایکسپریس ڈس آؤٹ بل (FADB)	3 ماہ KIBOR بمع 10% یا 20% سالانہ، جو بھی زیادہ ہو پر مارک اپ بل کی مقرر کردہ تاریخ سے لے کر ایڈجسٹمنٹ کی تاریخ تک چارج کیا جائے گا
	کلکیشن چارجز	
	(اے) سروس چارجز	0.15% یا کم از کم 1,500/- روپے بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(بی) کمیشن	(اے) 1,000 روپے (فلٹ) فی کلکیشن اگر چارجز پیسے نکلوانے والے اکاؤنٹ پر ہوں (بی) اگر چارجز پرنسپل اکاؤنٹ پر ہوں تو 20 امریکی ڈالر بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	امپورٹ ٹرانزیکشن پر دیگر چارجز	
	(اے) کنٹریکٹ رجسٹریشن	
(9)	(i) کنٹریکٹ رجسٹریشن تفویض کی بنیاد پر امپورٹ کے لئے (سالانہ بنیاد پر)	0.10% کم از کم 2,000 روپے
	(ii) کنٹریکٹ کی ترمیم	(اے) اکاؤنٹ میں اضافے کے بغیر/دورانیہ میں توسیع 700 روپے فی ترمیم (بی) اکاؤنٹ میں اضافہ کی صورت میں اور/یا دورانیہ میں توسیع چارجز بمطابق (I) (a) (9) J بمعہ قابل اطلاق ڈسپنچ/کلکیشن چارجز ٹیرف کے سیکشن (آئی) کے مطابق
	(بی) امپورٹس کے مقابل سلاٹ کو ادا کی گئی جس کے لئے کنٹریکٹ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے اور/یا امپورٹرز کو دستاویزات براہ راست موصول ہوئے ہیں	0.10% کم از کم 1,500 روپے بمع اصل خرچہ خط و کتابت بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(سی) سلاٹ کو ادا ڈانس پیمنٹ کے مقابل امپورٹ	0.15% کم از کم 1,700 روپے بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(ڈی) امپورٹ LC کے تحت مختلف دستاویزات کی ہینڈلنگ	100 امریکی ڈالر (فلٹ) + سوئفٹ چارجز 20 امریکی ڈالر
	(ای) غیر ادا شدہ بلز کی امپورٹ	100 امریکی ڈالر (فلٹ) یا جس بینک میں رقم آتی ہے وہاں سے اس کے مساوی کوئی دوسری کرنسی بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(ایف) بازار ادائیگی کے چارجز (بازار ادائیگی بینکوں کو قابل ادا)	اصل
	(جی) FOB کی بنیاد پر امپورٹ کے لئے Freight Certificate کا اجراء	1,000 روپے
	ایچ) کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں سے صارفین کی جانب سے کریڈٹ ریورٹس کا حصول	500 روپے بمع کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے اصل چارجز بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	آئی) کلائنٹ کی طرف سے فراہم کردہ فارن ایچ پی کی صورت میں بذریعہ دیگر بینک	0.10% بمع ہینڈلنگ چارجز 800 روپے فلٹ
	(جے) SBP سے منظوری کا حصول	1,000 روپے فلٹ فی ٹرانزیکشن
	(کے) برآمدات	
	لیٹر آف کریڈٹ	
	(اے) ایڈوانسنگ	
(1)	(i) پیپٹری اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں چارجز	2,000 روپے فلٹ بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(ii) ایپلی کینٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں چارجز	50 امریکی ڈالر (فلٹ) بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(بی) ترمیمی ایڈوانسنگ	
	(i) پیپٹری اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں چارجز	1,000 روپے (فلٹ) بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(ii) ایپلی کینٹ اکاؤنٹ ہونے کی صورت میں چارجز	35 امریکی ڈالر (فلٹ) بمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(سی) LC کے تحت Rupee Bills کی معاملت	0.25% کم از کم 475 روپے
	(ڈی) LC کی تصدیق/منظوری	CIBG (FI برلس) کی منظوری پر منحصر ہے۔
		مع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(2)	ای LC کی ٹرانسفر	1,500 روپے (فلٹ) اگر متبادل کاغذات کے بغیر 15,000 روپے (فلٹ) متبادل کاغذات کے ساتھ جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکنٹ/خط و کتابت کے اخراجات
	کلکیشن	
	اے کلین بلز (چیک بینک ڈرافٹ وغیرہ)	125 روپے فی کلکیشن جمع قابل اطلاق چارجز (ری امبرسمنٹ پورشن) جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکنٹ/خط و کتابت کے اخراجات
	بی ڈاکیمنٹری بلز	
(3)	(i) کلکیشن	250 روپے فی کلکیشن جمع قابل اطلاق چارجز (ری امبرسمنٹ پورشن) جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکنٹ/خط و کتابت کے اخراجات
	(ii) سروس چارجز	150 ملین روپوں تک 0.13% کم از کم 1,000 روپے 150 ملین سے زائد پر 0.10% کم از کم 2,000 روپے
	ایکسپورٹ ٹرانزیکشن کے تحت دیگر چارجز	
	اے) کمپنی کی ریویٹ ایپلیکیشنز ڈیوٹی ڈرائیو/آر ایڈ ڈی کیسیئر ایپلیکیشنز/کلیئر کی ہینڈلنگ	0.25% فی کلیم کم از کم 500 روپے
	بی) ایڈوائس ان ورڈ ایکسپورٹ ہیمنٹ پر کلکیشن	0.13% تک فی ٹرانزیکشن کم از کم چارجز 1,000 روپے فی ٹرانزیکشن اسی ایڈوائس رقم پر اگر ایک سے زائد کاغذات شامل ہیں تو ہر دستاویز پر کلکیشن الگ سے وصول کیا جائے گا
	سی) ایکسپورٹ بلز/ڈسکاؤنٹ (جیسا کہ سائٹ Usance بلز کی تاریخ سے سیکلٹریشن پر مارک اپ)	اے) مارک اپ کی بحالی منظوری کے قواعد کے مطابق ہوگی بی) بعد از وقت کے لئے، 3 ماہ کا KIBOR، جمع مارک اپ 10% یا 20 سالانہ پرمیٹر کردہ تاریخ سے کے کرایڈ جسٹمنٹ کی تاریخ تک چارج کیا جائے گا سی) ایف ای۔ 25 فنلنس کے برخلاف پی ڈی او کیسز کے لئے جہاں برانچ میں منظوری دستیاب نہ ہو تو جو کردہ/متفق شدہ شرح ریٹ سے 4% زیادہ کے حساب سے مارک اپ چارج کیا جائے گا۔
	ڈی) N.R Pak Rupee AC سے دیگر مقامی بینکوں کی باز ادائیگی رقم کی ادائیگی	1,000 روپے فلٹ
	ای) اگر دستاویزات محدود لیٹر آف کریڈٹ کے تحت معاملت کے لئے دوسرے بینکوں کو بھیجے گئے ہیں	1,100 روپے جمع قابل اطلاق چارجز (ری امبرسمنٹ پورشن)
	ایف) FCY کے ذریعے ایکسپورٹ بل سیکلٹریڈ	0.12% کم از کم 1,500 روپے
	جی) افغانستان کے لئے ایکسپورٹ کے چارجز کے مقابل ایف سی وائے نوٹس/ڈیپازٹ سے دستبرداری	0.45% کم از کم 3,000 روپے
	ایچ) NOSTRO میں حاصل ہونے والی ایکسپورٹ پروسیڈر کی دوسرے بینکوں کو ٹرانسفر	بل کی رقم کا 0.13%
	آئی) ایکسپورٹ انگلر کی بجائے جب ایکسپورٹ فارن ایپلیکیشن کی اور بینک کو بچتا ہے جبکہ کلکیشن کے لئے دستاویزات ہمارے بینک سے بھیجے جاتے ہیں	1,200 روپے فلٹ
	جے) ERF پری پنٹ میں سبسٹینٹیشن کیس کی تیاری	2,000 روپے فلٹ
	کے) ای آر ایف۔ 1 جہاں پری پنٹ ہم سے لی جاتی ہے اور ایکسپورٹ دوسرے بینک سے	2,000 روپے فی پنٹ
	ایل) ای ای سرٹیفیکیشن	500 روپے فی کیس
	ایم) ایکسپورٹ LC کی منسج	1,500 روپے فلٹ جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈسکنٹ/خط و کتابت کے اخراجات
	این) کلین اور متضاد دستاویزات کی معاملت کی ہینڈلنگ	1,000 روپے کلین 2,000 روپے ڈسکریٹ
	او) ایکسپورٹ دستاویزات ریٹریڈ غیر ادا شدہ	600 روپے فلٹ فی دستاویز جمع خط و کتابت کے اخراجات
	پی) ای آر ایف این اوسی کی حق داری کے لئے	1,000 روپے فی این اوسی
	ایل) فارن ریٹیننس	

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(1)	آؤٹ ورڈ ریمنٹینس	
	اے) فارن ٹریڈر چیک	1% ٹی سی کی فروخت کا یا کم از کم 200 روپے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
	بی) بیرون ملک ریمنٹینس بذریعہ FCI کاؤنٹ (بشمول ایف ڈی ڈی / ایف ٹی ٹی)	اے) 1000 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی مالیت پر 15 امریکی ڈالر فی آئیٹم بی) 0.25% فی آئیٹم جس کی مالیت 1000 امریکی ڈالر سے زائد ہو یا اس کے مساوی کم از کم 10 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ 100 امریکی ڈالر سی) اگر کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لیے چارجز کوڈ "ہمارا" ہے، تو درخواست دہندہ سے وصول کی جانے والی کسی بھی کرنسی میں امریکی ڈالر -/40 (فلٹ) مساوی ہے اور رقم متعلقہ Nostro اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہیے۔ جمع اضافی چارجز: 0.25% کی شرح سے کم از کم 5 امریکی ڈالر (یا مساوی کرنسی) وصول کئے جائیں گے جب ریمنٹینس شیش ڈیپازٹ کے 15 دن کے اندر متاثر ہوئی جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
	سی) بیرون ملک ریمنٹینس بذریعہ IFC کاؤنٹ کی بجائے (بشمول ایف ڈی ڈی / ایف ٹی ٹی)	
	(i) یونیورسٹی تعلیمی اداروں کو طلباء کے لئے (تعلیمی مقاصد کے لئے)	400 روپے فلٹ اے) اگر کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لیے چارجز کوڈ "ہمارا" ہے، تو درخواست دہندہ سے وصول کی جانے والی کسی بھی کرنسی میں امریکی ڈالر -/40 (فلٹ) مساوی ہے اور رقم متعلقہ Nostro اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہیے۔ خط و کتابت کے اخراجات بینیفیٹری کو ادائیگی کے وقت بھیجنے والے سے وصول کئے جائیں گے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
	(ii) دیگر بیرون ملک ریمنٹینس	0.10% فی آئیٹم یا کم از کم 500 روپے اے) اگر کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لیے چارجز کوڈ "ہمارا" ہے، تو درخواست دہندہ سے وصول کی جانے والی کسی بھی کرنسی میں امریکی ڈالر -/40 (فلٹ) مساوی ہے اور رقم متعلقہ Nostro اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہیے۔ خط و کتابت کے اخراجات بینیفیٹری کو ادائیگی کے وقت بھیجنے والے سے وصول کئے جائیں گے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
	ڈی) ایف سی اکاؤنٹس کے کریڈٹ کے لئے مخصوص کرنسیوں میں فارن کرنسی نوٹوں کے ڈیپازٹ پر چارجز کی پینڈنگ / کمیشن	
	(i) ڈیپازٹ ایف سی اکاؤنٹ میں 15 دن رہنے کی صورت میں	کوئی چارج نہیں
	(ii) ڈیپازٹ ایف سی اکاؤنٹ میں 15 سے کم دن رہنے کی صورت میں	0.25% کم از کم 5 امریکی ڈالر (یا مساوی کرنسی)
	ای) بیرون ملک ریمنٹینس SBP کی خصوصی منظوری کے تحت	1500 روپے فلٹ اے) اگر کسی بھی غیر ملکی کرنسی کے لیے چارجز کوڈ "ہمارا" ہے، تو درخواست دہندہ سے وصول کی جانے والی کسی بھی کرنسی میں امریکی ڈالر -/40 (فلٹ) مساوی ہے اور رقم متعلقہ فوسٹر اکاؤنٹ میں رکھی جانی چاہیے۔ خط و کتابت کے اخراجات بینیفیٹری کو ادائیگی کے وقت بھیجنے والے سے وصول کئے جائیں گے جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
	ایف) ایف ٹی ٹی سینی چارجز	500 روپے فلٹ جمع سیکشن (آئی) کے ٹیرف کے مطابق قابل نفاذ ڈپنچ / خط و کتابت کے اخراجات
(2)	ان وارڈ ریمنٹینس	
	اے) ہوم ریمنٹینس کے علاوہ	کوئی چارج نہیں، اگر رقم ہمارے بینک کی کسی برانچ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ متعلقہ بینک چارجز جہاں قابل اطلاق ہوں اصل میں کوئی کی جائے گی۔ دیگر معاملات میں، PO/DD چارجز کے ساتھ ساتھ ڈپنچ / مواصلاتی چارجز (جیسا کہ قابل اطلاق ہوں) وصول کیے جائیں گے۔
	بی) (i) مقامی USD چیک اور ڈرافٹ جمع کرنے اور سیٹلمینٹ چارجز	اے) اگر پاکستانی روپے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کئے گئے تو فی انسٹرومنٹ 550 بشمول NIFT اور کوئیکنگ بینک چارجز۔ بی) اگر غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں کریڈٹ کئے گئے تو، 5 امریکی ڈالر بشمول NIFT اور اور کوئیکنگ بینک چارجز۔
	(ii) ریٹرن چیک چارجز	اے) پاک روپیہ اکاؤنٹ: 650 روپے پی چیک واپسی بشمول NIFT چارجز۔ بی) غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ: 6 امریکی ڈالر یا مساوی بشمول NIFT چارجز

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(1)	ایم (دیگر چارجز) بین الاقوامی بینکنگ	CIBG کی منظوری کے مطابق (FI برنس)
(2)	کرسپانڈنٹ بینک کے چارجز (اگر کوئی ہیں)	500 روپے فیٹ مجموع غیر ملکی خط و کتابت کے اخراجات مجموع سیکشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
(3)	ان دورہ ٹیلیفون کی وصولی (ایف سی اکاؤنٹ سے متعلق)	1000 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی مالیت پر 15 امریکی ڈالر فی آئٹم 0.25% فی آئٹم جس کی مالیت 1000 امریکی ڈالر سے زائد ہو یا اس کے مساوی کم از کم 10 امریکی ڈالر زیادہ سے زیادہ 1000 امریکی ڈالر مجموع سیکشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
(4)	ان ورڈ ٹیکس کی وصولی مقامی برانچوں سے، اپ کٹری برانچوں سے یا مقامی بینکوں سے جن کی سٹیٹ پاکستانی کرنسی میں ہونا مقصود ہو (متعلقہ فارن کرنسی کا ٹی ٹی باننگ ریٹ میں مبادلہ)	0.15% کم از کم 400 روپے مجموع سیکشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
(5)	انٹرنیشنل آن لائن ایف سی ٹرانزیکشن (اے) آن لائن ایف سی والے کیش وڈرا (صرف منظور شدہ برانچز سے کروانے کی اجازت ہے)	کرنٹ اور آئی بی جی اکاؤنٹ: فری سیونگ (اے) شہر کے اندر کوئی چارجز نہیں (بی) شہروں کے مابین چارجز امریکی ڈالر = 05 برطانوی پاؤنڈ = 03 یورو = 04 جاپانی ین = 400
نوٹ: چارج اکاؤنٹ اور ایف سی ڈی کوراؤنڈ اکاؤنٹ ہونا چاہئے کیونکہ چارجز برانچ آنے والے صارف سے کیش کی صورت میں ریکور کروانے ہیں		
	(بی) آن لائن ایف سی والے کیش ڈیپازٹ (صرف منظور شدہ برانچز سے کروانے کی اجازت ہے)	کرنٹ اور آئی بی جی اکاؤنٹ: فری سیونگ (اے) شہر کے اندر کوئی چارجز نہیں (بی) شہروں کے مابین چارجز امریکی ڈالر = 05 برطانوی پاؤنڈ = 03 یورو = 04 جاپانی ین = 400
	(سی) آن لائن ایف سی والے اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر (صرف منظور شدہ برانچز کو اور سے کروانے کی اجازت ہے)	کرنٹ اور آئی بی جی اکاؤنٹ: فری سیونگ (اے) شہر کے اندر کوئی چارجز نہیں (بی) شہروں کے مابین چارجز امریکی ڈالر = 03 برطانوی پاؤنڈ = 02 یورو = 02 جاپانی ین = 300
(6)	فارن کرنسی اکاؤنٹ میں اسٹیٹنگ انٹرکشن فیس	15 امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن یا اس کے مساوی کوئی دوسری کرنسی، مجموعی بینک کے خط و کتابت کے اخراجات نے پر اطلاق شدہ ایف سی اکاؤنٹ اور انٹرکشنل اکاؤنٹ ڈیپازٹ مجموع ان کے تحت تمام قوت پزیر ہونے والی ٹرانزیکشنز پر چارجز متعلقہ ٹرانزیکشنز پر قابل اطلاق شرح سے ہوگا
(7)	فارن کرنسی اکاؤنٹ کے لیے ٹیکسٹ	
	(اے) پولیس ڈالر کے لئے نامزد شدہ وہ مالیاتی دستاویزات جو امریکہ کے باہر سے ڈرا کیا گیا ہو اور دیگر کرنسیوں جیسے برطانوی پاؤنڈ، یورو، جاپانی ین وغیرہ میں جلدی کی گئی دستاویزات۔	(i) 5 امریکی ڈالر 1000 امریکی ڈالر کی ٹیکسٹ پر (ii) 15 امریکی ڈالر 1000 امریکی ڈالر سے زائد پر (بامساوی کرنسی) بینک کی خط و کتابت کے تمام چارجز اصل کے مطابق وصول کئے جائیں گے مجموع سیکشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
	(بی) فارن کرنسی اکاؤنٹ کے لیے ٹیکسٹ (ایسے پولیس ڈالر میں نامزد شدہ مالیاتی دستاویزات کی ٹیکسٹ جسے امریکہ کے باہر سے ڈرا کیا گیا ہو)	(i) 5 امریکی ڈالر 499 امریکی ڈالر کی ٹیکسٹ پر (کیش لیٹ کے تحت) (ii) 20 امریکی ڈالر 500 امریکی ڈالر کی ٹیکسٹ اور زائد پر (سیکیورڈ ٹیکسٹ کے تحت) بینک کی خط و کتابت کے تمام چارجز اصل کے مطابق وصول کئے جائیں گے مجموع سیکشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات

سیریل نمبر	تفصیل	الائیڈ بینک چارجز کی شرح
(8)	FEBCS, FCBCS, DBCS کی کلکیشن اور پرافٹ کو پن NBP/SBP وغیرہ کی جانب سے	0.20% کم از کم 200 روپے زیادہ سے زیادہ 500 روپے فی کلکیشن ہمعسکیشن (آئی) کے ٹریف کے مطابق قابل نفاذ ڈسپنچ/خط و کتابت کے اخراجات
(9)	ایک سال سے زیادہ کے پروسیڈر میٹریٹیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء	600 روپے فیٹ
(10)	ڈیپلیٹ پروسیڈر میٹریٹیشن سرٹیفکیٹ کا اجراء	ایک سال کے دوران 300 روپے ایک سال سے زائد گزرنے پر 600 روپے
(11)	E-Form کے گم ہونے کا سرٹولیشن (بینک کے اپنے صارف سے بازیابی)	1000 روپے
(12)	ٹیسٹ/دستخط کی تصدیق کے چارجز دوسرے بینک سے حاصل کئے جائیں گے (فارن ریمیٹینس)	500 روپے فی معاملہ
(13)	ٹریڈرز چیکس/ڈرافٹ وغیرہ کی خریداری	100 روپے (فیٹ) فی ٹرانزیکشن
(14)	صارف کی درخواست پر برنس پر فارمنس سرٹیفکیٹ کا اجراء	1000 روپے (فیٹ)

نوٹس:

- صارفین کے ساتھ شیڈول آف چارجز میں رعایت/کمی فیصد کی بنیاد پر ممکنہ تعلقات پر چیف آر بی جی/سی آئی جی کی اجازت کے ساتھ ہوگی سوائے ان نکات کے جو خاص طور پر نیچے دیئے گئے ہیں۔
(اے) شیڈول آف چارجز کا سیکشن آئی (بی) معاون بینکوں کے اصل چارجز
(سی) کوئی بھی کلاز جہاں چارجز پر بات چیت ہو یا کوئی بھی چھوٹ جس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہو۔
- مذکورہ بالا نوٹ (1) (اے) (بی) (سی) اور (ڈی) کے تحت چارجز پر صرف سی ای او رعایت یا چھوٹ دے سکتا ہے۔ جو کہ متعلقہ چیف سی آر بی جی/سی آئی جی کی جانب سے مجوزہ ہوں۔
- جہاں بات چیت کے قابل ریٹ / چارج مشترکہ طور پر تصدیق کئے ہوں چیف سی آئی بی جی/سی آر بی جی نے اور اس کے ساتھ چیف آراہم جی نے جیسے کہ ایس او سی میں درج ہے کاروباری معاہدے کی بنیاد پر، اور ان تصدیق شدہ ریش میں کسی بھی قسم کی تبدیلی بھی چیف سی آئی بی جی/سی آر بی جی کے ساتھ چیف آراہم جی کی تصدیق کرنے پر کی جائے گی۔
- کسی بھی صارف/ادھار کنندہ کے لئے چارجز کے نرخ شیڈول آف چارجز میں دیے گئے نرخ سے نہیں بڑھیں گے۔
- یہ تمام پچھلی ہدایات سرکلر ز اور شیڈول آف چارجز کو ختم کرتا ہے۔
- شیڈول آف چارجز کے لئے راولپنڈی اور اسلام آباد کو ایک ہی شہر سمجھا جائے گا۔

فیس ایگزیمپشن گرڈ

پروڈکٹ کا نام	الائیڈ برنس	الائیڈ سٹریٹیجی مینجمنٹ اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	الائیڈ ایکسپریس اکاؤنٹ
اکاؤنٹ کٹیگریز	1003	کرنٹ 1015, 1024, 1027, 1028 سیونگ 6029, 6030	1009
مطلوبہ قابلیت	پچھلے مہینے میں کم از کم اوسط بیلنس کی حد 25,000 روپے	فیس اتھنٹی گریڈ آؤٹریٹ کی اہلیت کے لیے کم از کم بیلنس کی ضرورت نہیں ہے۔	کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں
آن لائن کیش ڈپازٹ	مفت (کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں)	کرنٹ اکاؤنٹ مفت سیونگ کے لیے چارجز SOC کے مطابق لاگو ہوں گے۔	مفت
آن لائن کیش نکالنا	مفت (کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں)	کرنٹ اکاؤنٹ مفت سیونگ کے لیے چارجز SOC کے مطابق لاگو ہوں گے۔	مفت
آن لائن اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر	مفت (کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں) تمام آن لائن ٹرانزیکشن "کسی بھی براؤز" میں جہاں کریڈٹ یا ڈیبٹ اکاؤنٹ "ABA" ہو، مفت رہے گی	کرنٹ اکاؤنٹ مفت سیونگ کے لیے چارجز SOC کے مطابق لاگو ہوں گے۔	مفت
ریموٹ براؤز کے ذریعہ کیسٹریٹنگ/چیک جمع کرنا /انسٹرومنٹ ڈپازٹ	مفت	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء/الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی براؤز میں قابل ادائیگی)/پے آرڈر/ الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی براؤز میں قابل ادائیگی) کال ڈپازٹ کی رسید	مفت	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق

پروڈکٹ کا نام	الائیڈ برنس	الائیڈ سٹریٹیجکٹ اکاؤنٹ (کرنٹ اور سیونگ)	الائیڈ ایکسپریس اکاؤنٹ
ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	مفت	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا ڈپلیکیٹ اجراء / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	مفت	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
برانچ میں قابل ادائیگی / کال ڈپازٹ رسید انٹرنیٹ بینکرنگ / ریوٹ ایریا کیلنڈرنگ (OBC)	کوئی چارج نہیں	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اکاؤنٹ مینینٹس چارجز (سرو چارجز)	SOC کے مطابق	کوئی چارج نہیں	کوئی چارج نہیں
چیک بک کا اجراء	10 چیکس کی پہلی چیک بک - مفت - اس کے بعد چیک بک کا اجراء مفت ہوگا، اگر کم از کم بینکس کی حد کو برقرار رکھا جائے جیسا کہ 'مطلوبہ قابلیت' میں مذکور ہے۔	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اہلیت دیگر	تمام کاروباری اکاؤنٹس (انفرادی / فرمز / کمپنی) الائیڈ برنس اکاؤنٹس کے لیے myABL برنس انٹرنیٹ بینکنگ پر کوئی رجسٹریشن چارج نہیں۔	تنخواہ دار	تمام انفرادی اکاؤنٹس
ڈیپٹ کارڈ	SOC کے مطابق	صرف کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے زندگی بھر کے لیے مفت یو پی آئی اور پی پاک کلاسک کارڈ دیگر مختلف اقسام SOC کے مطابق	1 - مفت ڈیپٹ کارڈ کا اجراء 2 - انٹرنیٹ بینکنگ تک مفت رسائی لاگو ہوں گے۔
اضافی فوائد کے لیے فیس جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بینکس متذکرہ حدوں سے نیچے آتا ہے۔	N/A	N/A	N/A
پروڈکٹ کا نام	فی گروڈ	کرنٹ اکاؤنٹ	
اکاؤنٹ کٹنگ بزنس مطلوبہ قابلیت		1001, 1008 ماہانہ کا اوسط بینکس 250,000 روپے سے کم 500,000 روپے سے کم 750,000 روپے سے کم اور اس سے اوپر	
آن لائن کیش ڈپازٹ		مفت	
آن لائن کیش نکالنا		مفت	
آن لائن اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر		مفت	
ریوٹ برانچ کے ذریعہ کیلنڈرنگ / چیک جمع کرنا / انسرومنٹ ڈپازٹ	2 مفت ٹرانزیکشن فی ماہ	4 مفت ٹرانزیکشن فی ماہ	مفت لاکھرو
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	3 مفت فی ماہ	6 مفت فی ماہ	مفت لاکھرو
ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	1 مفت فی ماہ	2 مفت فی ماہ	مفت لاکھرو

پروڈکٹ کا نام	فی گرڈ	کرنٹ اکاؤنٹ	مفت لاکھرو
ڈیمانڈ ڈرافٹ کاؤنٹ / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	1 مفت فی ماہ	2 مفت فی ماہ	
انٹرنیٹ کلیئرنگ / ریوٹ ایریا کلیئرنگ (OBC)		SOC کے مطابق	
اکاؤنٹ مینینس چارجز (سروس چارجز)		SOC کے مطابق	
چیک بک اجراء		SOC کے مطابق	
اہلیت		تمام کاروباری اکاؤنٹس (انفرادی / فرمز / کمپنی)	
دیگر			
اہلیت کے معیار (اوسط بیلنس) کی بنیاد پر اگلے ایک ماہ میں مفت سہولیات دستیاب رہیں گی جن کا حساب ہر مہینے کے آخر میں اکاؤنٹ میں اوسط بیلنس کی بنیاد پر کیا جائے گا۔			
ڈیبٹ کارڈ		SOC کے مطابق	
اضافی فوائد کے لیے فیس جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بیلنس متذکرہ حدود سے نیچے آتا ہے۔		N/A	

پروڈکٹ کا نام	الائیڈ یوتھ / یوتھ آسان اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن کرنٹ اکاؤنٹ (ریگولر / آسان)	الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ (ریگولر / آسان)
اکاؤنٹ کلکیریز مطلوبہ قابلیت	1020, 1021, 1022, 1023 اوسط بیلنس برائے مفت سروس	1018, 1019 اوسط بیلنس برائے مفت سروس	6014, 6033 اوسط بیلنس برائے مفت سروس
	10,000 (18-25) روپے 50,000 (26-35) روپے	50,000 روپے	100,000 روپے
آن لائن کیش ڈپازٹ	مفت	مفت	2 مفت ٹرانزیکشن فی ماہ
آن لائن کیش نکالنا	مفت	مفت	2 مفت ٹرانزیکشن فی ماہ
آن لائن اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر	مفت	مفت	2 مفت ٹرانزیکشن فی ماہ
ریوٹ برانچ کے ذریعہ انسٹرومنٹ ڈپازٹ برائے کلیئرنگ / چیک جمع کرنا	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کاؤنٹ / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
انٹرنیٹ کلیئرنگ / ریوٹ ایریا کلیئرنگ (OBC)	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اکاؤنٹ مینینس چارجز (سروس چارجز)	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں
چیک بک اجراء	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اہلیت	افراد (18-35)	افراد (55 یا زائد)	افراد (55 یا زائد)

پروڈکٹ کا نام	الائیڈ پوتھ/پوتھ آسان اکاؤنٹ	الائیڈ سینئر سٹیزن کرنٹ اکاؤنٹ (ریگولر/آسان)	الائیڈ سینئر سٹیزن سیونگ اکاؤنٹ (ریگولر/آسان)
دیگر	1- مفت موبائل ایپ (واؤچ 365) 2- حادثاتی موت اور معذوری کا بیمہ 500,000 روپے تک	1- مفت میڈیکل ہیلتھ کارڈ 2- مفت حادثاتی موت اور معذوری کا بیمہ 500,000 روپے تک کا بیمہ 3- مفت ہسپتال میں داخلگی کی کوریج 6000 روپے یومیہ	1- مفت میڈیکل ہیلتھ کارڈ 2- مفت حادثاتی موت اور معذوری کا بیمہ 300,000 روپے تک کا بیمہ 3- مفت ہسپتال میں داخلگی کی کوریج 1000 روپے یومیہ
ڈیٹ کارڈ	SOC کے مطابق	پہلے سال کے سالانہ چارجز صرف درج ذیل ڈیٹ کارڈ یو پی آئی اور پے پاک کلاسک پر مفت	پہلے سال کے سالانہ چارجز صرف درج ذیل ڈیٹ کارڈ یو پی آئی اور پے پاک کلاسک پر مفت
اضافی فوائد کے لیے فیس جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بیلنس متذکرہ حدود سے نیچے آتا ہے۔	50 روپے فی ماہ (تمام ٹیکسوں سمیت) مہینے کے کم از کم اوسط بیلنس سے نیچے: 10,000 روپے (18-25 سال) 50,000 روپے (26-35 سال)	140 روپے (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) مہینے کے کم از کم اوسط بیلنس سے نیچے: 50,000 روپے	140 روپے (تمام ٹیکسوں کے علاوہ) مہینے کے کم از کم اوسط بیلنس سے نیچے: 100,000 روپے

پروڈکٹ کا نام	الائیڈ فری لانس کرنٹ اکاؤنٹ	الائیڈ خانم کرنٹ اکاؤنٹ (ریگولر/آسان)	الائیڈ خانم سیونگ اکاؤنٹ (ریگولر/آسان)
اکاؤنٹ کنگیز مطلوبہ قابلیت	1037 کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں	1029, 1030 کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں	6013, 6023 کم از کم بیلنس کی کوئی حد درکار نہیں
آن لائن کیش ڈپازٹ	مفت	مفت	SOC کے مطابق
آن لائن کیش نکالنا	مفت	مفت	SOC کے مطابق
آن لائن اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ٹرانسفر	مفت	مفت	SOC کے مطابق
ریموٹ برانچ کے ذریعہ انسٹرومنٹ ڈپازٹ برائے کلیئرنگ / چیک جمع کرنا	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ کی رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ کی رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
ڈیمانڈ ڈرافٹ کا ڈپلیکیٹ اجراء / الائیڈ بینکر چیک (کسی بھی برانچ میں قابل ادائیگی) / پے آرڈر / الائیڈ بینکر چیک (جاری کرنے والی برانچ میں قابل ادائیگی) / کال ڈپازٹ کی رسید	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
انسٹریٹ کلیئرنگ / ریموٹ ایریا کلیئرنگ (OBC)	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اکاؤنٹ میٹیننس چارجز (سروس چارجز)	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں	کوئی چارجز نہیں
چیک بک کا اجراء	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
الہیت	افراد / کمپنیاں	انفرادی خواتین	انفرادی خواتین
دیگر	1- مفت ڈیٹ کارڈ کا اجراء 2- انسٹریٹ بینکنگ تک مفت رسائی	1- پہلے سال کے لیے لاکر کے کرائے پر 50% رعایت 2- ڈیٹ کارڈ کے ذریعے Golootloo ڈسکاؤنٹس 3- خانم اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے کنزیومرفنانس کے تحت قرضوں پر مارک اپ پر خصوصی 1% رعایت	1- پہلے سال کے لیے لاکر کے کرائے پر 50% رعایت 2- ڈیٹ کارڈ کے ذریعے Golootloo ڈسکاؤنٹس 3- خانم اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے کنزیومرفنانس کے تحت قرضوں پر مارک اپ پر خصوصی 1% رعایت
ڈیٹ کارڈ	پہلے سال کے سالانہ چارجز صرف درج ذیل ڈیٹ کارڈ یو پی آئی اور پے پاک کلاسک پر مفت	SOC کے مطابق	SOC کے مطابق
اضافی فوائد کے لیے فیس جہاں کم از کم ماہانہ اوسط بیلنس متذکرہ حدود سے نیچے آتا ہے۔	N/A	N/A	N/A